

شیڈول آف بینک چارجز (FED کے علاوہ)

یکم جنوری سے 30 جون 2020



Bank Alfalah
Islamic
The Way Forward

یکم جنوری سے 30 جون 2020 تک چارجز میں تبدیلی کا اطلاق ہوگا

تجارتی خدمات

PL Categories	B. تجارتی مالیات (فارن)
	1. لیٹر آف کریڈٹ (فارن)
	(c) لیٹر آف کریڈٹ "سپلائر کریڈٹ" (مُرابحہ/مساومہ/ ایجنسی ترتیب کے مطابق)۔ کمیشن فی کوارٹر 0.40 فیصد تک ریٹ یا اس کے بعد حتمی ادائیگی لیٹر آف کریڈٹ کی مکمل رقم پر کم از کم 2000 روپے کمیشن چارج کیا جائے گا۔ جو لیٹر آف کریڈٹ گھلنے کی تاریخ سے مدت ختم ہونے کے دورانے کے لئے ہوگا۔
	C. درآمدات
	(3) دیگر چارجز
	(c) امپورٹ مرابحہ/مساومہ کے تحت پیشگی پرمنافع (امپورٹ بلز ایجنسی ترتیب کے تحت قائم کردہ سائٹ لیٹر آف کریڈٹ کے تحت بغیر پوسٹ امپورٹ سہولت کے) (مذاکرات/ڈیبٹ اتھارٹی کی تاریخ/امپورٹ مرابحہ/مساومہ کے تحت ایڈوانس کی ادائیگی سے ڈیلی پروڈکٹس پر)۔
	کورنگ شیڈیول / ویلیو ڈیبٹ پر واضح ہونے والی مذاکرات کی تاریخ سے بل کی رقم پر ڈیلی پروڈکٹس کے لئے منافع 0.55 روپے فی 1000 روپے یومیہ جو چاہے لاگو ہو یا کریڈٹ اور بزنس اتھارٹیز سے منظور شدہ ترتیب کے مطابق ہو۔

فنانسنگ/ایڈوانسز

PL Categories	B. تجارتی مالیات (فارن)
	5. درآمد مُرابحہ/مساومہ فنانس اور ضمانت کے تحت تمام گڈس کے لئے ڈیلیوری آرڈر کا اجرا (جہاں لاگو ہو)
	E. الفلاح مشارکہ ہومز
PL65045	1. پروسیسنگ فیس (بشمول پہلی ویلیو ایشن کاسٹ، ڈیٹا چیک اور CIB چارجز - MPL کیسوں پر بھی لاگو)
	15. گرین فنانس قبل از وقت سیٹلمنٹ چارجز
	G کارپریٹ فنانسنگ پارٹی/قرض دار
	AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مرابحہ/مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔ *طویل المدت سہولت کی تجدید پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ ** 2. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی رعایت یا استثنیٰ کی منظوری GH-IBG کی جانب سے یا بینک کے مجاز افراد کی جانب سے دی جا سکتی ہے۔

PL Categories	SME (H) اور کمرشل فنانسنگ پارٹی/ قرض دار
	کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے نئے بینک کسٹمرز، کیس کی منظوری سے مشروط: پروسیسنگ اور اسٹرکچرنگ فیس برائے ایس ایم ای کمرشل کسٹمرز۔ 25 ملین روپے تک 10,000/- روپے 100 ملین روپے تک 15,000/- روپے 200 ملین روپے تک 20,000/- روپے 200 ملین سے زائد 25,000/- روپے کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے کریڈٹ کی سہولت کی تجدید / اضافہ۔ پروسیسنگ اور مشورہ فیس، برائے ایس ایم ای کمرشل کسٹمرز۔ 25 ملین روپے تک 5,000/- روپے 100 ملین روپے تک 10,000/- روپے 200 ملین روپے تک 15,000/- روپے 200 ملین سے زائد 20,000/- روپے یا AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مرابحہ/مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔ *طویل المدت سہولت کی تجدید پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ **2. EOL/OTT/ عبوری اضافہ ، پریڈک ریویوز ، کیش بیک سہولیات پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے، علاوہ ٹریڈ انیشیٹوز trade initiatives کے تحت کھولی گئی LCs اور سیونگز آکاؤنٹس/ TDR کے تحت سیکیورڈ LGS۔ *** 3. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی رعایت یا استثنیٰ کی منظوری بینک پالیسی کے تحت دی جا سکتی ہے۔ مزید eCLP گروپ، تمام گروپ/سمسٹر کنسرنز کو ایک ادارہ ہی تصور کیا جائے گا اور CLP پروسیسنگ چارجز گروپ سے وصول کئے جانے کے ناکہ افرادی طور پر۔
	(I) الفلاح اسلامک کاروبار فنانس
	پروسیسنگ فیس (فنانسنگ ایپلیکیشن فارم کے ساتھ پیشگی قابل ادا) کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے نئے بینک کسٹمرز، کیس کی منظوری سے مشروط: پروسیسنگ اور اسٹرکچرنگ فیس برائے ایس ایم ای کسٹمرز۔ 30 ملین روپے تک 10,000 روپے کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے کریڈٹ کی سہولت کی تجدید / اضافہ۔ پروسیسنگ اور مشورہ فیس، مختصر المدت تجدید کی صورت میں جو کہ مختصر المدت سہولت پر لاگو ہوگی۔ برائے ایس ایم ای کسٹمرز۔ 30 ملین روپے تک 5,000 روپے یا شریعہ بورڈ کے مشورے کے مطابق
	AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مرابحہ/مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔

جنرل بینکنگ

PL Categories	A ریمیٹنسنز (LCY)	
Customer A/C	9:00 صبح تا 1:30 سہ پہر 220 روپے فی ٹرانزیکشن 1:30 سہ پہر تا 3:00 سہ پہر 330 روپے فی ٹرانزیکشن 3:00 صبح تا 4:00 شام 550 روپے فی ٹرانزیکشن (ٹریڈری کی جانب سے منظوری سے مشروط)	(d) RTGS چارج، پیر تا جمعہ MT 103 پیر تا جمعہ (1 ملین روپے اور زائد)
	9:00 صبح تا 4:00 شام 50 روپے فی ٹرانزیکشن (ٹریڈری کی جانب سے منظوری سے مشروط)	MT 102 پیر تا جمعہ (100,000 روپے اور زائد)
	H ڈیپٹ کارڈ	
	(1) کلاسک اینڈ گولڈ ڈیپٹ کارڈ	
PL55611 PL55611	1,100 روپے سالانہ فی کلاسک ویزا ڈیپٹ کارڈ 1,400 روپے سالانہ فی گولڈ ویزا ڈیپٹ کارڈ 750 روپے سالانہ فی اسلامک پی پاک کلاسک ڈیپٹ کارڈ	a. ڈیپٹ کارڈ اجراء کے چارجز / سالانہ چارجز
PL55526	600 روپے	b. ڈیپٹ کارڈ کی تبدیلی کے چارجز
	2. سگنیچر ڈیپٹ کارڈ	
	32.00 ڈالر فی وزٹ	(iv) پرائیویٹی پاس فیس (b) انٹر پورٹ لاؤنج وزٹ فیس
	7,000 روپے	(v) سالانہ / اجراء فیس
	Q متفرق چارجز	
PL55550	شہر کے اندر بلا معاوضہ انٹر سٹی 275 روپے، ہر مرتبہ رقم نکالنے اور جمع کروانے پر، چارجز ڈپازٹ کی صورت میں ڈپازٹر سے کاؤنٹر اور رقم نکالنے کی صورت میں بینیفیشری سے موقع پر ہی وصول کئے جائیں گے	(j1) سروس برانچ پر آن لائن کیش ٹرانزیکشن چارجز
	شہر کے اندر بلا معاوضہ انٹر سٹی 200 روپے، ہر مرتبہ رقم نکالنے اور جمع کروانے پر، جو کہ فنڈ ٹرانسفر کی صورت میں ارسال کنندہ سے وصول کئے جائیں گے۔	(j2) سروس برانچ پر آن لائن فنڈ ٹرانسفر ٹرانزیکشن
S الفلاح اسلامک بزنس وے		
25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے کی صورت میں کسٹمر مندرجہ ذیل فیس اسٹٹنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے: - پاکستان بھر میں فری آن لائن ٹرانزیکشنز۔ لا محدود (ڈپازٹ اور وڈڈراول) - فری چیک بکس۔ لا محدود - بینکرز چیکس کا بلا معاوضہ اجراء *ڈوپلیکیٹ بینکرز چیکس کا بلا معاوضہ اجراء - فری ایم ٹی ایم / ڈیپٹ کارڈ / کوئی سالانہ فیس نہیں (کسٹمر کو ڈیپٹ کارڈ، ڈیپٹ کارڈ پالیسی کے تحت جاری کیا جائے گا۔ صرف کلاسک اور گولڈ) *فری پی آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹس کینسلیشن۔ لا محدود - فری ایس ایم ایس الرٹس - فری آکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس - پاکستان میں کسی بھی بینک کے ایم ٹی ایم سے کیش کی وصولی بلا معاوضہ (صرف پی رول آکاؤنٹس کیلئے 1 Net-10 چارجز سے اسٹٹنی) نوٹ: مطلوبہ ماہانہ بیلنس برقرار نہ رکھنے کی صورت میں کسٹمر کی بلا معاوضہ سروسز* کو مروجہ شیڈول آف بینک چارجز کے تحت چارج کیا جائے گا۔ تاہم پی رول اسکیم کے تحت تمام آکاؤنٹس کو فیس میں اسٹٹنی کیلئے کم از کم اوسط بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔		

ڈیجیٹل بینکنگ

A ڈیجیٹل ویپل اجارہ	
B ڈیجیٹل چینلز / متبادل ڈیلیوری چینلز	
(i) کیش ڈپازٹ مشین ۔ چارجز بینک الفلاح اکاؤنٹس دیگر بینک اکاؤنٹس 10,000 روپے تک 10,001 اور زائد سی این آئی سی (j) ٹیکس پیمنٹس 0 - 100,000 100,001 - 1,000,000 1,000,000 +	مفت 100 روپے 150 روپے 200 روپے (کوئی چارجز نہیں، اگر رقم بھیجنے والا اکاؤنٹ کھولتا ہے) 10 روپے 20 روپے 50 روپے

C. بذریعہ ایفنا یا انٹرنیٹ بینکنگ بھیک ٹک / بینکرز بھیک کے لیے درخواست	
D. سی این آئی سی چارجز کی ادائیگی	
0 - 1,000	39.66 روپے
1,001 - 2,500	80.17 روپے
2,501 - 4,000	119.83 روپے
4,001 - 6,000	160.34 روپے
6,001 - 8,000	200.00 روپے
8,001 - 10,000	239.66 روپے
10,001 - 13,000	280.17 روپے
13,001 - 15,000	310.34 روپے
15,001 - 20,000	379.31 روپے
20,001 - 25,000	439.66 روپے
25,001 - 30,000	500.00 روپے
30,001 - 40,000	560.34 روپے
40,001 - 50,000	620.69 روپے

E. الفنا اکاؤنٹ ۔ اسلامک	
(a) کارڈ جاری کرنے کی فیس	425 روپے تک (ای ایم وی کارڈ کا اجراء)؛ ہوم ریمیٹنس پروڈکٹ پر پہلے کارڈ کا مفت اجراء
(b) کارڈ فیس سالانہ	425 روپے
(c) کارڈ ری پلیسمنٹ فیس	375 روپے (ای ایم وی کارڈ کا اجراء)
(j) الفنا اکاؤنٹ ۔ اسلامک سے آئی بی ایف ٹی	75 روپے
H. ڈیجیٹل چیکس	
(a) چیک کا اجراء	5 روپے
(b) ادائیگی روکنے کے چارجز	450 روپے
(c) چیک کی واپسی کے چارجز	700 روپے

بینک الفلاح اسلامک پریمیئر

3ملین روپے سے 5 ملین روپے تک	5ملین روپے سے 7ملین روپے تک	7ملین روپے اور زائد
آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفلا موبائل ایپ) ان ورڈ ریمینٹس	آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفلا موبائل ایپ)	آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفلا موبائل ایپ) لاکر کی سالانہ فیس (بڑے لاکرز) **

نوٹ : ڈپازٹرز جو 2 ملین روپے یا کم کرنٹ اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ میں فارن کرنسی میں مساوی رقم کا ماہانہ اوسط بیلنس یا ٹرم ڈپازٹ رکھتے ہیں تو انہیں ایک سال کے لیے چھوٹے / درمیانے لاکرز مفت فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سہولت ان کسٹمرز کو دستیاب ہوگی جو پورے سال درکار اوسط بیلنس برقرار رکھیں گے۔ یہ پالیسی، لاکر کی دستیابی پر اسلامک پریمیئر کسٹمرز کے تمام تھریشولڈز کے لیے بھی قابل اطلاق ہے۔

کنزیومرفنانس:

اسلامک پریمیئر ویزا سگنچرڈبیٹ کارڈ

- لاؤنج کی فیسیلیٹی کے ذریعے 650 سے زائد ایئر پورٹ لاؤنجز پر بلا معاوضہ رسائی دستیاب ہے۔
- اہلیت کا معیار۔ لاؤنج وزٹ سے قبل ہر کلینڈر سال میں کم از کم 1 یو ایس ڈالر کی ایک بین الاقوامی ٹرانزیکشن۔ اگر اہلیت کا معیار پورا نہیں ہو پاتا ہے تو ہر وزٹ پر 27 یو ایس ڈالر چارج کیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا معیار پورا کرنے سے قبل ایک وزٹ بلا معاوضہ ہے۔ کارڈ ہولڈر کے ساتھ آنے مہمانوں سے 27 یو ایس ڈالر چارج کیے جائیں گے۔
- پرائیورٹی پاس: (a) سالانہ فیس: 10 یو ایس ڈالر (b) ایئر پورٹ لاؤنج وزٹ فیس: 32 یو ایس ڈالر فی وزٹ
- ہر ماہ Shapes (صرف کراچی اور لاہور کے لیے) 10 تک بلا معاوضہ وزٹس۔ اس کے علاوہ 1,500 روپے فی وزٹ چارج کیا جائے گا۔

فہرست

تجارتی خدمات

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | A. تجارتی مالیات (لوکل) |
| 02 | B. تجارتی مالیات (فارن) |
| 03 | C. درآمدات |
| 04 | D. برآمدات |
| 05 | E. کرنسی سلام پر چیریٹی |

اینیگٹرز

- | | |
|----|-------------|
| 06 | A اینیگٹر |
| 08 | A-I اینیگٹر |
| 10 | B اینیگٹر |
| 12 | C اینیگٹر |
| 14 | C-I اینیگٹر |

فنانسنگ/ایڈوانسز

- | | |
|----|--|
| 16 | A. فنانسنگ / ایڈوانسز |
| 16 | B. گروی / رہن رکھنے پر ایڈوانسز کے چارجز |
| 17 | C. ضمانتیں |
| 17 | D. الفلاح کار/کارپوریٹ اجارہ |
| 18 | E. الفلاح مشارکہ ہومز |
| 19 | F. اسلامی برآمدی ری فنانس |
| 20 | G. کارپوریٹ فنانسنگ پارٹی/قرض دار |
| 20 | H. SME اور کمرشل فنانسنگ پارٹی/قرض دار |
| 21 | I. الفلاح اسلامک کاروبار فنانس |
| 22 | J. الفلاح اسلامک ملکیت فنانس |
| 22 | K. الفلاح اسلامک فلیٹ فنانس |

جنرل بینکنگ

- 23 A. ریمیٹنسز (LCY)
 23 B. چیکس کی وصولی
 23 C. ریمیٹنسز (FCY)
 24 D. فارن وصولیات
 24 E. فارن ایکسچینج پرمٹس
 24 F. دیگر چارجز
 25 G. سیف ڈپازٹ لاکرز
 25 H. ڈیبٹ کارڈ
 26 I. کیش مینجمنٹ ٹرانزیکشن
 26 J. اے ٹی ایم
 26 K. بیلنس کی معلومات
 26 L. یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی
 27 M. بیلنس کنفرمیشن
 27 N. اسٹیٹمنٹس / ایڈوانسز
 27 O. چیک بُک
 27 P. کلنیرنگ
 28 Q. متفرق چارجز
 29 R. بیسک بینکنگ اکاؤنٹ
 30 S. الفلاح اسلامک بزنس وے

ڈیجیٹل بینکنگ

- 31 A. ڈیجیٹل وہیکل اجارہ
 31 B. آلٹرنیٹ ڈلیوری / ڈیجیٹل چینل
 32 C. بذریعہ ایلفا یا انٹرنیٹ بینکنگ، چیک بُک/بینکرز چیک کے لیے درخواست
 32 D. سی این آئی سی چارجز کی ادائیگی
 33 E. الفا اکاؤنٹ۔ اسلامک
 33 F. ورچوئل ڈیبٹ کارڈ
 33 G. بُک می ٹکننگ فیسلیٹیشن چارجز
 (بذریعہ ایپ، آئی بی اور سی ڈی ایمز)
 33 H. ڈیجیٹل چیکس

ترجیحی بینکنگ خدمات

- 34
 35 بینک الفلاح اسلامک پریمیئر

تجارتی خدمات

PL Categories	A. تجارتی مالیات (لوکل)	
	1. لیٹر آف کریڈٹ (لوکل)	
PL52305	ا (a) اجراء	سلیب 1-A کے تحت 100 ملین سے زائد LC کی صورت میں فی ملین 3,750 روپے اضافی سروس چارجز لاگو ہوں گے۔ (پہلی سہ ماہی صرف) اور 2,500 (بقیہ سہ ماہی)
PL52306	ب (b) (i) ترمیم (ii) رقم میں اضافے اور ڈسپیچ/ڈلیوری / مذاکرات کی مدت میں توسیع سے متعلق ترمیم۔	1,250 روپے بمعہ سونفٹ چارجز 1,250 روپے فی ترمیم پلس کمیشن
	c (c) ایڈوائزنگ	1,250 روپے فلیٹ، فی لیٹر آف کریڈٹ
PL52308	d (d) قبولیت کمیشن	a (a) بل کی ریٹائرمنٹ کے وقت 900 روپے فی بل چارج کیے جائیں گے۔ b (b) اینیگزٹر کے لاگو Slab کے مطابق (کریڈٹ لیٹر کی میعاد ختم ہونے پر اس کے بعد کی مدت کے لئے)۔ بہر حال اگر میچورٹی / بلوں کی ادائیگی کا دورانیہ اس مدت کے دوران مکمل ہو، جس کا LC کھولنے کا کمیشن پہلے ہی لیا جا چکا ہو تو اس صورت میں کمیشن چارج نہیں کیا جائے گا۔
PL52304	e (e) LC کی تنسیخ	1800 روپے بمعہ سونفٹ چارجز
	2. ڈاکیومنٹری بلز کی وصولی	
PL65051	a (a) ہمارے بینک کی برانچز کے ذریعے	اینگزٹر A کے مطابق لاگو Slab کا 50 فیصد
PL65051	b (b) ان لیٹڈ LC کے تحت (سانٹ / معیاد) ڈاکیومنٹری بلز کے لئے وصولی چارجز	0.30 فیصد، کم از کم 300 روپے
	3. ان پیڈ آنٹمز	
PL52607	a (a) ریٹرننگ چارجز (i) ڈاکیومنٹری بلز (ii) کلین بلز	400 روپے فی بل 400 روپے فی بل
	4. دیگر چارجز	
	a (a) کلیکشن ایجنٹ چارجز	اصل
PL55510	b (b) ٹیلیکس	500 روپے (مکمل)
PL52607	c (c) اسٹوریج چارجز	50 روپے / پیک / یوم
PL52310	d (d) LC کے تحت پیش کی جانے والی معترضہ دستاویزات کی ہینڈلنگ	3000 روپے فی بل (محاصل سے منہا کیا جائے گا)

نوٹ:

- * کلیکٹنگ ایجنٹ کے چارجز اگر کلیکٹنگ بینک مختلف ہو تو اضافی ہوں گے۔
- * دیگر اضافی اخراجات اصل کے مطابق چارج کئے جائیں گے۔

PL Categories	B. تجارتی مالیات (فارن)	
	1. لیٹر آف کریڈٹ (فارن)	
PL52305	اینیگزٹر A میں دینے گئے لاگو Slab کے مطابق کم از کم چارجز 1500 روپے یا کریڈٹ ڈویژن سے منظور شدہ	(a) کیش لیٹر آف کریڈٹ (ایجنسی/نان ایجنسی اریجنمنٹ کے مطابق)
PL52305	اینیگزٹر A میں دینے گئے لاگو Slab کے مطابق	(b) لیٹر آف کریڈٹ "سپلانر کریڈٹ" Pay-As-You-Earn اسکیم اور ڈیفنڈ پیمنٹ لیٹر آف کریڈٹس ایک سال سے زیادہ کی مدت کے لئے (نان ایجنسی ترتیب کے مطابق)۔
	کمیشن فی کوارٹر 0.40 فیصد تک ریٹ یا اس کے بعد حتمی ادائیگی لیٹر آف کریڈٹ کی مکمل رقم پر کم از کم 2000 روپے کمیشن چارج کیا جائے گا۔ جو لیٹر آف کریڈٹ گھسلنے کی تاریخ سے مدت ختم ہونے کے دورانے کے لئے ہوگا۔	(c) لیٹر آف کریڈٹ "سپلانر کریڈٹ" (مُرابحہ/مساومہ/ایجنسی ترتیب کے مطابق)۔
PL52306	LC کی معیاد ختم ہونے پر جب اس کی توثیق کی جانے تو توثیقی کمیشن وصول کیا جائے گا جیسا کہ نئی LC کھولنے وقت لاگو ہوتا ہے۔	(d) توثیقی کمیشن
PL52306	لیٹر آف کریڈٹ نئے بینیفٹری کو منتقل کرتے وقت ٹرانسفر کمیشن چارج کیا جائے گا جیسے نیا لیٹر آف کریڈٹ کھولنے وقت لاگو ہوتا ہے۔ (1a کے مطابق)	(e) نئے بینیفٹری کو لیٹر آف کریڈٹ کی منتقلی
Relevant Expense Code	اصل کے مطابق بشمول ہمارے حادثاتی چارجز	(f) اکاؤنٹ کھولنے والے پر چارجز موجود ہونے پر لیٹر آف کریڈٹ کی تصدیق/تسلیخ
PL52304	2,000 روپے فی کیس بمعہ سونفٹ چارجز	(g) لیٹر آف کریڈٹ کی تسلیخ
PL52305	اینیگزٹر A میں دینے گئے لاگو Slab کے مطابق	(h) بارٹر/امداد کے تحت ناقابل ادائیگی لیٹر آف کریڈٹ
	2. قبولیت کمیشن	
PL52308	(a) بل نکالتے وقت 900 روپے فی بل چارج کیا جائے گا۔ (b) اینیگزٹر B میں دینے گئے لاگو Slab کے مطابق (لیٹر آف کریڈٹ کی معیاد ختم ہونے کے بعد کسی بھی مدت کے لئے)۔ تاہم اگر میچورٹی/بلوں کی ادائیگی کا دورانیہ اس مدت کے دوران مکمل ہو۔ جس کا LC کھولنے کا کمیشن پہلے ہی لیا جا چکا ہو تو اس صورت میں کمیشن چارج نہیں کیا جائے گا۔	اگر بلز یوزنس لیٹرز آف کریڈٹس کے مطابق نکالے جائیں۔
PL52306	1,500 روپے فی کیس	(a) ترامیم، لیٹر آف کریڈٹ/کانٹریکٹ
PL52306	1,250 روپے فی ٹرانزیکشن پلس کمیشن	(b) رقم میں اضافے اور شپمنٹ/مذاکرات فی آئٹم کی مدت میں توسیع سے متعلق ترمیم۔
PL52305 PL52305	اینیگزٹر A میں دینے گئے لاگو Slab کے مطابق کم از کم چارجز 1800 روپے یا کریڈٹ ڈویژن سے منظور شدہ	(c) LCs کا اجراء 100 فیصد کیش مارجن کے مطابق۔ (i) ایجنسی/نان ایجنسی ترتیب کے تحت

PL52368	کوئی نہیں	(d) فارم I ہینڈلنگ چارجز
	3,000 روپے بمعہ سونفٹ چارجز	(e) سپلائر کو امپورٹ کے لئے بیرون ملک ایڈوانس ریمیٹینس
	2,000 روپے فی کیس	(3) فارورڈ کور
		C. درآمدات
		(1) امپورٹ کلیکشن بلز
PL65078	1,500 روپے بمعہ 1,000 روپے سونفٹ چارجز	(a) ہینڈلنگ چارجز
PL55517	1,550 روپے فی کیس	(b) ریٹرن ان پیڈ
PL52368	1,000 روپے	(c) دیگر بینکوں کو فارن ایکسچینج کے لئے این او سی کا اجرا یا موٹر ریمیٹینس ہمارے L/C یا رجسٹرڈ کنٹریکٹ کے تحت.
		(2) کنسانمنٹ کی بنیاد پر درآمد
PL52305	اینیگز A کے مطابق لاگو سلیب کا 50 فیصد یا کم از کم 1875 روپے	(a) درآمدات کے لئے کنٹریکٹ کی رجسٹریشن
		(3) دیگر چارجز
PL55507	150 روپے یا اصل کے مطابق جو بھی زیادہ ہو.	a ڈاک
PL65062/ PL55580	2,200 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو.	b کورینر سروس (غیر ملکی)
PL65181 (Profit on Import Murabaha	کورنگ شیڈیول / ویلیو ڈیٹ پر واضح ہونے والی مذاکرات کی تاریخ سے بل کی رقم پر ڈیلی پروڈکٹس کے لئے منافع 0.55 روپے فی 1000 روپے یومیہ جو چاہے لاگو ہو یا کریڈٹ اور بزنس اتھارٹیز سے منظور شدہ ترتیب کے مطابق ہو.	(c) امپورٹ مرابحہ/ مساومہ کے تحت پیشگی پر منافع (امپورٹ بلز ایجنسی ترتیب کے تحت قائم کردہ سائٹ لیٹر آف کریڈٹ کے تحت بغیر پوسٹ امپورٹ سہولت کے) (مذاکرات/ ڈیٹ اتھارٹی کی تاریخ/ امپورٹ مرابحہ/ مساومہ کے تحت ایڈوانس کی ادائیگی سے ڈیلی پروڈکٹس پر).
		(d) ٹیلی میسیجز/ سونفٹ میسیجز
PL55510	2000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو 1000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو 500 روپے یا کسٹمر سے آرینجمنٹ کے مطابق	(i) لیٹرز آف کریڈٹ/ سونفٹ کا مکمل ٹیلیکس (ii) لیٹرز آف کریڈٹ/ سونفٹ کا مختصر ٹیلیکس (iii) LC کی مختصر ٹیلیکس / ٹیکسٹ ترمیم
Relevant Expense (PL65507 Other Exp)	اصل کے مطابق	(e) سپلائر کے لئے نئی کریڈٹ رپورٹوں کا حصول
PL55510	اصل کے مطابق	(f) خط و کتابت کے چارجز، اگر ہوں وصول کئے جائیں گے

PL Categories		
PL52310	75 ڈالرز (جہاں لاگو ہو، درآمدی بل کے محاصل سے منہا کیا جانے گا یا اگر رقم پہلے ہی واپس کر دی گئی ہے تو پیش کنندہ بینک سے وصول کیا جائے گا)	(g) LC تحت پیش کی جانے والی معترضہ دستاویزات کی ہینڈلنگ
PL55517	0.10% (فلیٹ) کم سے کم 900 روپے یا کریڈٹ ڈیویژن کی طرف سے منظور کردہ اریٹجمنٹ کے مطابق	(h) سائنٹ / یوزینس بلز / اوپن اکاؤنٹ / کلیکشن / کوٹریکٹ کی ریٹائرمنٹ پر سروس چارجز
	600 روپے فی فارم	(i) دوسرے بینکوں کو EIF ٹرانسفر کے چارجز
	500 روپے فی EIF	(j) درآمدی اوپن اکاؤنٹ اور کلیکشنز کے تحت ای آئی ایف
	1000 روپے فی فارم	(k) FOC (بلا معاوضہ شپمنٹ) WEBOC EIF
	1500 روپے فی فارم	(l) FOB کی بنیاد پر فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء
	1000 روپے فی سرٹیفکیٹ	(M) گذشتہ برسوں کیلئے کاروبار کی کارکردگی کا سرٹیفکیٹ
	2,000 فی کیس ایس بی پی کی منظوری ملنے پر	(N) امپورٹ ایڈوائس پیمنٹ کیلئے ایس بی پی کی منظوری
	2,000 فی GD ایس بی پی کی منظوری ملنے پر	(O) زائد المیعاد GD پر امپورٹ اوپن اکاؤنٹ کیلئے ایس بی پی کی منظوری
	زائد المیعاد مدت کے لئے 24 سالانہ	(P) غیر ملکی / مقامی یوزینس بل کے لئے زائد المیعاد کی قبولیت پر چیریٹی
(D) برآمدات		
1. لیٹرز آف کریڈٹ		
PL52316	1800 روپے فلیٹ	(a) بینک الفلاح کسٹمرز کیلئے ILC ایڈوائزنگ چارجز
PL52316	2500 روپے فلیٹ	بینک الفلاح کے علاوہ دیگر کسٹمرز کیلئے ILC ایڈوائزنگ چارجز
PL52315	1,200 روپے فی ترمیم	(b) ترمیم
	انتظام کے مطابق یا 1000 روپے، جو بھی زیادہ ہو	(c) تصدیق
PL52316	1,500 روپے (فلیٹ) فی کیس	(d) ایکسپورٹ لیٹر آف کریڈٹ کی منتقلی

نوٹ:

- * ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ اور/یا "فارورڈ" فزیبیلٹی (کسٹمر کی جانب سے) استعمال کرنے کی وجہ سے لیٹر آف کریڈٹ کے واجبات میں اضافہ ہونے کی صورت میں بینک کے پاس حق محفوظ ہے کہ وہ بڑھ جانے والے واجبات پر لیٹر آف کریڈٹ کی مؤثر معیار کے لئے مذکورہ لیٹر آف کریڈٹ کمیشن وصول کرے۔
- * تمام کیٹیگریز میں پاکستانی روپے یا غیر ملکی کرنسی میں چارجز وصول کیے جاسکتے ہیں۔ بینک کے پاس حق محفوظ ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر منافع کے ریٹ تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ریٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ ریٹس سے زیادہ نہ ہوں۔

PL Categories	2. ایکسپورٹ بلز
PL55517	(a) نان ریزیڈنٹ پاکستانی روپے کے اکاؤنٹس / ایشین کلیئرنگ یونین اکاؤنٹس سے دیگر مقامی بینکوں کو رقم کی ادائیگی۔ 1000 روپے (یکساں)
	3. کلیکشنز
PL55517	(a) کلین 245 روپے
PL55517	(b) تحریری ثبوت (جس پر بینک کوئی ایکسچینج آمدنی وصول نہیں کرتا)۔ 650 روپے فی کلیکشن
	(c) دوسرے بینکوں کو EFE ٹرانسفر کے چارجز 200 روپے فی فارم
PL52368	(d) EE اسٹیٹمنٹ کے عوض استحقاق کیلئے NOC کا اجراء 1,200 روپے فی این او سی
	4. سروس چارجز
PL55517	(a) کلیکشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمدی دستاویزات پر سروس چارجز، جب پیمینٹ کور بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ / ایڈوانس پیمینٹ میں موصول ہو چکے ہوں 12 پیسہ فی 100 روپے۔ کم از کم 700 روپے
PL55517	(b) ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج۔ ہیڈلنگ فیس۔ 80 روپے
PL55511	(c) ایکسپورٹ DLTD R&D اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جمع کروانے گئے کسی امدادی کلیم کے عوض سروس چارجز 1,400 روپے فی GD، کریڈٹ ڈویژن کی صوابدید کے مطابق
PL55517	(d) ایکسچینج ارننگ کے عوض ہیڈلنگ چارجز، جب کوئی ایکسپورٹرز کسی دوسرے بینک کو فارن ایکسچینج فروخت کرے جبکہ دستاویزات کلیکشن کے لئے بینک الفلاح کے ذریعے بھیجی گئی ہوں۔ 0.10 فیصد، کم از کم 1000 روپے
	(e) برآمدی LC کی منسوخی کے چارجز 900 روپے بمعہ سونفٹ چارجز
	(f) گذشتہ برسوں کیلئے کاروبار کی کارکردگی کا سرٹیفکیٹ 1000 روپے فی سرٹیفکیٹ
	(g) ایک سال سے زائد EPRC کا اجراء 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
PL55511	(h) پورے مالی سال کیلئے DL TL 0.10 فیصد یا 5000 روپے، جو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے موصولہ رقم سے کم ہو یا کریڈٹ اور بزنس اتھارٹیز کی جانب سے منظوری کے مطابق
	E. کرنسی سلام پر چیرٹی
	(a) چیرٹی کی رقم تاخیری مدت کے لیے بینک کے قابل وصولی پر 16 فیصد سالانہ

نوٹ:

- * ایکسپورٹ بزنس کے لئے مذکورہ بالا کے علاوہ کوئی چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔
- * فنڈز کی منتقلی میں تاخیر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جرمانے کے تمام چارجز کسٹمر کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں گے۔
- * یہ ہمارے اسٹیٹرزڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت / کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

Annexure A. Import Letter of Credit		Amount in PKR	
From	Amount Range To	1st Quarter or Part Thereof	Subsequent Quarters
1	500,000	1,800	1,000
500,001	750,000	2,175	1,250
750,001	1,000,000	3,050	1,750
1,000,001	1,500,000	4,375	2,500
1,500,001	2,000,000	6,125	3,500
2,000,001	2,500,000	7,875	4,500
2,500,001	3,000,000	9,625	5,500
3,000,001	3,500,000	11,375	6,500
3,500,001	4,000,000	13,125	7,500
4,000,001	4,500,000	14,875	8,500
4,500,001	5,000,000	16,625	9,500
5,000,001	5,500,000	18,375	10,500
5,500,001	6,000,000	20,125	11,500
6,000,001	6,500,000	21,875	12,500
6,500,001	7,000,000	23,625	13,500
7,000,001	7,500,000	25,375	14,500
7,500,001	8,000,000	27,125	15,500
8,000,001	8,500,000	28,875	16,500
8,500,001	9,000,000	30,625	17,500
9,000,001	9,500,000	32,375	18,500
9,500,001	10,000,000	34,125	19,500
10,000,001	12,500,000	39,375	22,500
12,500,001	15,000,000	48,125	27,500
15,000,001	17,500,000	56,875	32,500
17,500,001	20,000,000	65,625	37,500
20,000,001	22,500,000	74,375	42,500
22,500,001	27,500,000	87,500	50,000
27,500,001	30,000,000	100,625	57,500
30,000,001	32,500,000	109,375	62,500
32,500,001	35,000,000	118,125	67,500
35,000,001	37,500,000	126,875	72,500
37,500,001	40,000,000	135,625	77,500
40,000,001	42,500,000	144,375	82,500
42,500,001	45,000,000	153,125	87,500
45,000,001	47,500,000	161,875	92,500
47,500,001	50,000,000	170,625	97,500
50,000,001	52,500,000	179,375	102,500
52,500,001	55,000,000	188,125	107,500
55,000,001	57,500,000	196,875	112,500
57,500,001	60,000,000	205,625	117,500
60,000,001	62,500,000	214,375	122,500
62,500,001	65,000,000	223,125	127,500
65,000,001	67,500,000	231,875	132,500
67,500,001	70,000,000	240,625	137,500
70,000,001	72,500,000	249,375	142,500
72,500,001	75,000,000	258,125	147,500

انٹرنیشنل بینکنگ جنوری - جون 2020

Annexure A. Import Letter of Credit		Amount in PKR	
From	Amount Range To	1st Quarter or Part Thereof	Subsequent Quarters
75,000,001	77,500,000	266,875	152,500
77,500,001	80,000,000	275,625	157,500
80,000,001	82,500,000	284,375	162,500
82,500,001	85,000,000	293,125	167,500
85,000,001	87,500,000	301,875	172,500
87,500,001	90,000,000	310,625	177,500
90,000,001	92,500,000	319,375	182,500
92,500,001	95,000,000	328,125	187,500
95,000,001	97,500,000	336,875	192,500
97,500,001	100,000,000	345,625	197,500
کم از کم چارجز 1,800 روپے			

1. 100 ملین روپے سے زائد LC پر 3500 روپے کے اضافی سروس چارجز ہر 1 ملین روپے پر (پہلے کوارٹر) اور 2000 روپے (اس کے بعد کوارٹرز) پر لاگو ہونگے۔

2. امپورٹ مُرابحہ اور امپورٹ اجارہ کی صورت میں LC کمیشن منافع/کرایہ کے طور پر وصول کیا جائے گا۔

3. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت/ کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

Annexure A-I Import Letter of Credit			Amount in PKR
From	Amount Range To	1st Quarter or Part Thereof	Subsequent Quarters
1	500,000	1,875	1,250
500,001	750,000	2,325	1,563
750,001	1,000,000	3,275	2,188
1,000,001	1,500,000	4,650	3,125
1,500,001	2,000,000	6,550	4,375
2,000,001	2,500,000	8,425	5,625
2,500,001	3,000,000	10,300	6,875
3,000,001	3,500,000	12,175	8,125
3,500,001	4,000,000	14,050	9,375
4,000,001	4,500,000	15,925	10,625
4,500,001	5,000,000	17,800	11,875
5,000,001	5,500,000	19,675	13,125
5,500,001	6,000,000	21,500	14,375
6,000,001	6,500,000	23,425	15,625
6,500,001	7,000,000	25,300	16,875
7,000,001	7,500,000	27,175	18,125
7,500,001	8,000,000	29,050	19,375
8,000,001	8,500,000	30,925	20,625
8,500,001	9,000,000	32,800	21,875
9,000,001	9,500,000	34,675	23,125
9,500,001	10,000,000	36,550	24,375
10,000,001	12,500,000	42,175	28,125
12,500,001	15,000,000	51,550	34,375
15,000,001	17,500,000	60,925	40,625
17,500,001	20,000,000	70,300	46,875
20,000,001	22,500,000	79,675	53,125
22,500,001	27,500,000	93,750	62,500
27,500,001	30,000,000	107,800	71,875
30,000,001	32,500,000	117,175	78,125
32,500,001	35,000,000	126,550	84,375
35,000,001	37,500,000	135,925	90,625
37,500,001	40,000,000	145,300	96,875
40,000,001	42,500,000	154,675	103,125
42,500,001	45,000,000	164,050	109,375
45,000,001	47,500,000	173,425	115,625
47,500,001	50,000,000	182,800	121,875
50,000,001	52,500,000	192,175	128,125
52,500,001	55,000,000	201,550	134,375
55,000,001	57,500,000	210,925	140,625
57,500,001	60,000,000	220,300	146,875
60,000,001	62,500,000	229,675	153,125
62,500,001	65,000,000	239,050	159,375
65,000,001	67,500,000	248,425	165,625
67,500,001	70,000,000	257,800	171,875
70,000,001	72,500,000	267,175	178,125
72,500,001	75,000,000	276,550	184,375
75,000,001	77,500,000	285,925	190,625
77,500,001	80,000,000	295,300	196,875

انٹرنیشنل بینکنگ جنوری - جون 2020

Annexure A-I Import Letter of Credit		Amount in PKR	
From	Amount Range To	1st Quarter or Part Thereof	Subsequent Quarters
80,000,001	82,500,000	304,675	203,125
82,500,001	85,000,000	314,050	209,375
85,000,001	87,500,000	323,425	215,625
87,500,001	90,000,000	332,800	221,875
90,000,001	92,500,000	342,175	228,125
92,500,001	95,000,000	351,550	234,375
95,000,001	97,500,000	360,925	240,625
97,500,001	100,000,000	370,300	246,875
کم از کم چارجز 1,875 روپے			

1. 100 ملین روپے سے زائد LC پر 3750 روپے کے اضافی سروس چارجز ہر 1 ملین روپے پر (پہلے کوارٹر) اور 2500 روپے (اس کے بعد کوارٹرز) پر لاگو ہونگے۔
2. امپورٹ مُرابحہ اور امپورٹ اجارہ کی صورت میں LC کمیشن منافع/کرایہ کے طور پر وصول کیا جائے گا۔
3. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت/کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

Annexure B		Amount in PKR
Acceptance Amount Range		Per Month or Part Thereof
From	To	
1	500,000	500
500,001	750,000	700
750,001	1,000,000	900
1,000,001	1,500,000	1,250
1,500,001	2,000,000	1,750
2,000,001	2,500,000	2,250
2,500,001	3,000,000	2,750
3,000,001	3,500,000	3,250
3,500,001	4,000,000	3,750
4,000,001	4,500,000	4,250
4,500,001	5,000,000	4,750
5,000,001	5,500,000	5,250
5,500,001	6,000,000	5,750
6,000,001	6,500,000	6,250
6,500,001	7,000,000	6,750
7,000,001	7,500,000	7,250
7,500,001	8,000,000	7,750
8,000,001	8,500,000	8,250
8,500,001	9,000,000	8,750
9,000,001	9,500,000	9,250
9,500,001	10,000,000	9,750
10,000,001	12,500,000	11,250
12,500,001	15,000,000	13,750
15,000,001	17,500,000	16,250
17,500,001	20,000,000	18,750
20,000,001	22,500,000	21,250
22,500,001	25,000,000	23,750
25,000,001	27,500,000	26,250
27,500,001	30,000,000	28,750
30,000,001	32,500,000	31,250
32,500,001	35,000,000	33,750
35 000 001	37,500,000	36,250
37,500,001	40,000,000	38,750
40,000,001	42,500,000	41,250
42,500,001	45,000,000	43,250
45,000,001	47,500,000	46,750
47,500,001	50,000,000	48,750
50,000,001	52,500,000	51,250
52,500,001	55,000,000	53,750
55,500,001	57,500,000	56,250
57,500-001	60,000,000	58,750
60,000,001	62,500,000	61,250
62,500,001	65,000,000	63,750

یوسینس لیٹر آف کریڈٹ (Usance Letter of Credit) کے تحت بلوں کی منظوری
جنوری - جون 2020

Annexure B		Amount in PKR
Acceptance Amount Range		Per Month or Part Thereof
From	To	
65,000,001	67,500,000	66,250
67,500,001	70,000,000	68,750
70,000,001	72,500,000	71,250
72,500,000	75,000,000	73,750
75,000,001	77,500,000	76,250
77,500,001	80,000,000	78,750
80,000,001	82,500,000	81,250
82,500,001	85,000,000	83,750
85,000,001	87,500,000	86,250
87,500,001	90,000,000	88,750
90,000,001	92,500,000	91,250
92,500,001	95,000,000	93,750
95,000,001	97,500,000	96,250
97,500,001	100,000,000	98,750

- 100 ملین روپے سے زائد کی منظوری پر 1000 روپے (ماہانہ) کے اضافی سروس چارجز ہر 1 ملین روپے پر (یا اس کا حصہ) لاگو ہوں گے۔
- یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت / کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

ضمیمہ C کے سلیب کے مطابق		Amount in PKR	
Guarantee Amount Range		Per Quarter Charges or part thereof	Subsequent Quarter Charges or part thereof
From	To		
1	500,000	1,750	875
500,001	1,000,000	5,250	2,625
1,000,001	1,500,000	8,750	4,375
1,500,001	2,000,000	12,250	6,125
2,000,001	2,500,000	15,750	7,875
2,500,001	3,000,000	19,250	9,625
3,000,001	3,500,000	22,750	11,375
3,500,001	4,000,000	26,250	13,125
4,000,001	4,500,000	29,750	14,875
4,500,001	5,000,000	33,250	16,625
5,000,001	5,500,000	36,750	18,375
5,500,001	6,000,000	40,250	20,125
6,000,001	6,500,000	43,750	21,875
6,500,001	7,000,000	47,250	23,625
7,000,001	7,500,000	50,750	25,375
7,500,001	8,000,000	54,250	27,125
8,000,001	8,500,000	57,750	28,875
8,500,001	9,000,000	61,250	30,625
9,000,001	9,500,000	64,750	32,375
9,500,001	10,000,000	68,250	34,125
10,000,001	12,500,000	78,750	39,375
12,500,001	15,000,000	96,250	48,125
15,000,001	17,500,000	113,750	56,875
17,500,001	20,000,000	131,250	65,625
20,000,001	22,500,000	148,750	74,375
22,500,001	25,000,000	166,250	83,125
25,000,001	27,500,000	183,750	91,875
27,500,001	30,000,000	201,250	100,625
30,000,001	32,500,000	218,750	109,375
32,500,001	35,000,000	236,250	118,125
35,000,001	37,500,000	253,750	126,875
37,500,001	40,000,000	271,250	135,625
40,000,001	42,500,000	288,750	144,375
42,500,001	45,000,000	306,250	153,125
45,000,001	47,500,000	323,750	161,875
47,500,001	50,000,000	341,250	170,625
50,000,001	52,500,000	358,750	179,375
52,500,001	55,000,000	376,250	188,125
55,000,001	57,500,000	393,750	196,875
57,500,001	60,000,000	411,250	205,625
60,000,001	62,500,000	428,750	214,375
62,500,001	65,000,000	446,250	223,125
65,000,001	67,500,000	463,750	231,875
67,500,001	70,000,000	481,250	240,625
70,000,001	72,500,000	498,750	249,375
72,500,001	75,000,000	516,250	258,125
75,000,001	77,500,000	533,750	266,875
77,500,001	80,000,000	551,250	275,625

ضمیمہ C کے سلیب کے مطابق		Amount in PKR	
Guarantee Amount Range		Per Quarter Charges or part thereof	Subsequent Quarter Charges or part thereof
From	To		
80,000,001	82,500,000	568,750	284,375
82,500,001	85,000,000	586,250	293,125
85,000,001	87,500,000	603,750	301,875
87,500,001	90,000,000	621,250	310,625
90,000,001	92,500,000	638,750	319,375
92,500,001	95,000,000	656,250	328,125
95,000,001	97,500,000	673,750	336,875
97,500,001	100,000,000	691,250	345,625

* فی ترمیم اجراء کیلئے کم از کم سروس چارجز 1750 روپے (فلیٹ) ہیں

* 100 ملین روپے سے زائد کی گارنٹیز کی صورت میں ہر 1 ملین روپے پر 7000 روپے اضافی سروس چارجز لاگو ہونگے

(ہر کوارٹر یا اس کا حصہ) پلس آئندہ کوارٹرز کے لئے 3500 روپے۔

* کلیم ہیڈلنگ چارجز 5000 روپے (فلیٹ)۔

** یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت / کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

ضمیمہ 1-C کے سلیب کے مطابق		Amount in PKR
Guarantee Amount Range		Per Year Charges or part thereof
From	To	
1	500,000	12,500
500,001	1,000,000	37,500
1,000,001	1,500,000	62,500
1,500,001	2,000,000	87,500
2,000,001	2,500,000	112,500
2,500,001	3,000,000	137,500
3,000,001	3,500,000	162,500
3,500,001	4,000,000	187,500
4,000,001	4,500,000	212,500
4,500,001	5,000,000	237,500
5,000,001	5,500,000	262,500
5,500,001	6,000,000	287,500
6,000,001	6,500,000	312,500
6,500,001	7,000,000	337,500
7,000,001	7,500,000	362,500
7,500,001	8,000,000	387,500
8,000,001	8,500,000	412,500
8,500,001	9,000,000	437,500
9,000,001	9,500,000	462,500
9,500,001	10,000,000	487,500
10,000,001	12,500,000	562,500
12,500,001	15,000,000	687,500
15,000,001	17,500,000	812,500
17,500,001	20,000,000	937,500
20,000,001	22,500,000	1,062,500
22,500,001	25,000,000	1,187,500
25,000,001	27,500,000	1,312,500
27,500,001	30,000,000	1,437,500
30,000,001	32,500,000	1,562,500
32,500,001	35,000,000	1,687,500
35,000,001	37,500,000	1,812,500
37,500,001	40,000,000	1,937,500
40,000,001	42,500,000	2,062,500
42,500,001	45,000,000	2,187,500
45,000,001	47,500,000	2,312,500
47,500,001	50,000,000	2,437,500
50,000,001	52,500,000	2,562,500
52,500,001	55,000,000	2,687,500
55,000,001	57,500,000	2,812,500
57,500,001	60,000,000	2,937,500
60,000,001	62,500,000	3,062,500
62,500,001	65,000,000	3,187,500
65,000,001	67,500,000	3,312,500
67,500,001	70,000,000	3,437,500
70,000,001	72,500,000	3,562,500
72,500,001	75,000,000	3,687,500
75,000,001	77,500,000	3,812,500
77,500,001	80,000,000	3,937,500

ضمیمہ 1-C کے سلیب کے مطابق		Amount in PKR
Guarantee Amount Range		Per Year Charges or part thereof
From	To	

80,000,001	82,500,000	4,062,500
82,500,001	85,000,000	4,187,500
85,000,001	87,500,000	4,312,500
87,500,001	90,000,000	4,437,500
90,000,001	92,500,000	4,562,500
92,500,001	95,000,000	4,687,500
95,000,001	97,500,000	4,812,500
97,500,001	100,000,000	4,937,500

* گارنٹی کے اجراء / تبدیلی کے کم از کم سروس چارجز 1,750 روپے (فلیٹ) ہیں

* 100 ملین روپے سے زائد کی گارنٹیز کی صورت میں ہر 1 ملین روپے پر 7000 روپے اضافی سروس چارجز لاگو ہونگے

(ہر کوارٹر یا اس کا حصہ) پلس آئندہ کوارٹر کے لئے 3500 روپے۔

* کلیم ہیڈلنگ چارجز 5000 روپے (فلیٹ)۔

** یہ ہمارے اسٹیٹرزڈ چارجز ہیں اور اس میں رعایت / کمی جی ایچ کی صوابدید یا بینک کی پالیسی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔

PL Categories	A. فنانسنگ / ایڈوانسز	
PL55563	1. پروجیکٹ ایگز امینیشن فیس (اگر کلائنٹ نے طلب کی ہو)	مطلوبہ پروجیکٹ فیسبلٹی کا 1.5 فیصد یا کریڈٹ ڈویژن کی جانب سے منظور کردہ اریئجمنٹ کے مطابق
	2. قانونی اور انتظامی فیس	اصل کے مطابق
	3. متفرق چارجز دستاویزات، سیکیورٹی کی جانچ اور اس کی میٹینینس	اصل کے مطابق
PL52607	4. سیکیورٹیز کا تبادلہ (عارضی)	(i) 2500 روپے (فلیٹ) نقد کے لئے (ii) دیگر سیکیورٹیز کے لئے 5000 روپے (نقد)
PL52607	5. سیکیورٹیز پر قانونی حق میں اضافہ جو ہماری جانب سے جاری نہ کی گئی ہوں۔	1000 روپے (سروس چارجز)
	6. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے رجسٹرار کے پاس چارج کی رجسٹریشن۔	1000 روپے پلس برانچ کے ذمے اصل کے مطابق چارجز
PL55587	7. ECIB چارجز۔	120 روپے فی رپورٹ (فریش فسیلیٹی کی پروسیسنگ یا تجدید یا حد میں اضافے یا EOL اور OTT یا فنانس کی ری اسٹرکچرنگ / ری شیڈولنگ کے وقت۔
	8. کنٹرول اور سیکیورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی (ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق)	بمطابق اصل (اسٹیمپ پیپر کی لاگت بمع وینڈر کے سروس چارجز)
	9. رجسٹریشن فیس اور چارج سرچ رپورٹ	بمطابق اصل
B. گروی / رہن رکھنے پر ایڈوانسز کے لئے چارجز		
	1. گودام کا معائنہ کرنے کے چارجز، جب بینک اسٹاف کی جانب سے معائنہ کیا جائے۔	
	شہری حدود میں ہو:	
	(a) برانچ کے 10 کلو میٹر کی حدود میں	(a) اصل کے مطابق سفری اخراجات
	(b) شہری حدود سے باہر	(b) اصل کے مطابق سفری اخراجات
PL52607	2. گودام کا معائنہ کرنے کے چارجز، جب بیرونی ایجنسیز کی جانب سے معائنہ کیا جائے۔	اصل کے مطابق
	3. دیگر حادثاتی اخراجات (انشورنس، لیگل وغیرہ)۔	اصل کے مطابق
PL52607	4. کلیکشن آف کوپن (ہمارے قانونی حق کے تحت دیگر بینکوں / سیونگ سینٹرز کی جانب سے جاری کردہ حکومتی سرٹیفیکٹس پر)	1000 روپے فی وزٹ
	5. درآمد مُرابحہ / مساومہ فنانس اور ضمانت کے تحت تمام گلاس کے لئے ڈیلیوری آرڈر کا اجرا (جہاں لاگو ہو)۔	500 روپے
PL52368	6. دیگر بینکوں / فنانشل انسٹیٹیوشنز سے مزید رقم کے حصول کے سلسلے میں فکسڈ / موجودہ اثاثوں پر اضافی / پاری پاسو چارج / سیکنڈ چارج لگانے کے لئے کسٹمر / کلائنٹ کی درخواست پر این او سی (کسٹمر کی درخواست پر) کا اجرا۔	10000 روپے یا کریڈٹ ڈویژن سے منظور کردہ۔

PL Categories	(C) ضمانتیں (گارنٹیز)	
PL52395/ PKR 15964	110 فیصد کیش مارجن کیلئے 1500 روپے (فلیٹ)	1. بل آف لیڈنگ، انٹر ویز بلز اور ریلوے رسیدوں کے عوض شپنگ کمپنیوں کیلئے جاری کردہ گارنٹیاں
PL52395/ PKR 15964	اینیگزور C میں دینے گئے قابل اطلاق سلیب کے مطابق	2. کلیکٹر آف کسٹمز کو ایکسپورٹ ڈیوٹی کی ادائیگی پر ضمانتیں (گارنٹیز) جاری کی جائیں گی جو 6 ماہ تک مؤثر ہوں گی۔
PL52395/ PKR 15964	اینیگزور C میں دینے گئے قابل اطلاق سلیب کے مطابق	3. 100 فیصد کیش مارجن ڈپازٹ کے تحت مکمل طور پر محفوظ ضمانتیں (گارنٹیز)
PL52395/ PKR 15964	اینیگزور C میں دینے گئے قابل اطلاق سلیب کے مطابق	4. دیگر ضمانتیں (گارنٹیز) کیلنڈر سال کے دوران / کرنسی کی حد کے والیوم اور کسٹمز / گروپ بشمول ملحق اکاؤنٹس بنیاد پر ترتیب۔
PL52395/ PKR 15964	اینیگزور C میں دینے گئے قابل اطلاق سلیب کے مطابق	5. پاکستان میں دوسرے بینک کی درخواست پر جاری کی گئی۔
PL52380	اینیگزور C1 میں دینے گئے قابل اطلاق سلیب کے مطابق	6. غیر ملکی بینک کی ضمانت پر۔
PL52395	1000 روپے فی ترمیم۔	7. ضمانتوں (گارنٹیز) میں ترامیم۔
PL52395/ PKR 15964	اینیگزور C اور C1 میں دینے گئے سلیب کے مطابق	8. رقم میں اضافہ یا دورانیے میں توسیع۔
	500 روپے فلیٹ	9. گارنٹیوں کی منسوخی
نوٹ:		
* اگر کلیکٹنگ بینک مختلف ہوا تو کو کلیکٹنگ چارجز اضافی ہوں گے۔		
* متفرق (جیب سے ادا کردہ) خرچے اصل کے مطابق ہوں گے۔		
* چارجز میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل نہیں ہے (سوائے جہاں SBP کی جانب سے بیان کئے ہوں)		
D. الفلاح کار / کارپوریٹ اجارہ		
(a) کار اجارہ		
PL52104	8,000 روپے	(1) کار اجارہ، ڈاکیومنٹیشن / پروسیسنگ چارجز
PL65076	سہولت کی سیٹلمنٹ کے وقت واجب الادا ایسیٹ ویلیو کا 5 فیصد (سیکیوریتی ڈپازٹ کے علاوہ)	(2) کار اجارہ منسوخی چارجز
PKR17319	اوور ڈیو مدت کے کرائے کی رقم کا 24 فیصد سالانہ	(3) کرائے کی تاخیر سے ادائیگی پر Charity
3rd Party A/C	5,000 روپے تک یا بمطابق اصل ، جو بھی کم ہو	(4) آمدنی کے تخمینہ چارجز
PL65076	ہر چیک ریٹرن پر 600 روپے	(5) چیک ریٹرن چارجز
3rd Party A/C	اصل نقصان اور 100,000 روپے تک۔	(6) گاڑی کے قبضے / ریکوری (ایجنٹ کے چارجز)
	3,000 روپے تک یا بمطابق اصل ، جو بھی کم ہو	(7) دوبارہ حاصل کی گئی گاڑیوں کیلئے سروے چارجز
	1,200 روپے ماہانہ	(8) دوبارہ حاصل کی گئی گاڑیوں کیلئے ونیر ہاؤس چارجز
	1,000 روپے فی NOC	(9) NOC کے دوبارہ اجراء کے چارجز
	10000 تک یا اصل کے مطابق ، جو بھی کم ہوں	(10) گاڑی کی جانچ کے چارجز (اگر لاگو ہوں)
	1,800 روپے تک فی ڈلیوری / شپمنٹ یا اصل کے مطابق ، جو بھی کم ہو۔	(11) رجسٹریشن ٹیکس اور نمبر پلیٹس کی ڈلیوری کے لئے کوریئر چارجز
	1,000 سے 1,500 روپے جو فاصلے پر منحصر ہے۔	(12) شہر سے باہر کی تصدیق
	2,000 روپے (ایک مرتبہ)	(13) مدت پوری ہونے کے بعد دستاویزات کے حصول کے چارجز (دوسری طرف) 6 ماہ کے دستاویزی ہینڈلنگ چارجز

PL Categories	کارپوریٹ اجارہ (b)	
PL65076	1. کارپوریٹ کار اجارہ ٹرمینیشن چارجز	
	پہلے سال میں دوسرے سال میں تیسرے سال میں چوتھے سال میں پانچویں سال میں	واجب الادا سرمائے کا 5 فیصد واجب الادا سرمائے کا 5 فیصد واجب الادا سرمائے کا 4 فیصد واجب الادا سرمائے کا 3 فیصد واجب الادا سرمائے کا 2 فیصد
PL52104	2. کارپوریٹ اجارہ ڈاکیومنٹیشن / پروسیسنگ چارجز	اصل یا منظوری کے مطابق
PKR17319	3. کرانے کی تاخیر سے ادائیگی پر Charity	کرانے کی رقم کا 16 فیصد سالانہ، اوور ڈیو مدت کیلئے
3rd Party A/C	4. آمدنی کے تخمینہ چارجز	اصل کے مطابق
PL65076	5. چیک ریٹرن چارجز	ہر چیک ریٹرن پر 500 روپے
3rd Party A/C	6. ایسٹ ری پزیشن / ریکوری (ایجنٹ چارجز)	اصل کے مطابق
	نوٹ: مذکورہ بالا چارجز گروپ پیڈ اسلامک بینکنگ کی صوابدید پر تبدیل کئے جاسکتے ہیں۔	
	E. الفلاح مشارکہ ہومز	
PL65045	1. پروسیسنگ فیس (بشمول پہلی ویلیو ایشن کاسٹ، ڈیٹا چیک اور CIB چارجز - MPL کیسوں پر بھی لاگو)	• مقامی تنخواہ دار 7,500 روپے (فلپٹ) • اپنا کاروبار کرنے والے / بزنس میں / غیر ملک میں ملازمت کرنے والے افراد 10,000 روپے (فلپٹ) • الفلاح گرین فنانس 7,500 روپے (فلپٹ)
PL65045	2. ڈاکیومنٹیشن / رہن چارجز	اصل کے مطابق بشمول • اسٹیمپ ڈیوٹی • لیگل ڈاکیومنٹیشن کے چارجز • آن سائٹ انسپکشن • قانونی مشورے / وکیل کی فیس • چارج رجسٹریشن فیس • سیکیورٹی کے بارے میں چارجز • متعلقہ ایجنسی / افراد کے مشورے کے مطابق
PL65072	3. جانبداد کی ویلیو ایشن رپورٹ / BOQ کی ویٹنگ / تعمیراتی مراحل کا معائنہ	اصل کے مطابق
3rd Party A/C	4. فوری ادائیگی کے چارجز، اگر ادا ہو گئے ہیں۔	• 5% اگر ادائیگی کے پہلے پانچ سالوں میں ادا کر دیئے جائیں اور بعد ازاں 3% سہولت کی مدت پوری ہونے تک • دوسرے بینک کے ذریعے (بی ٹی ایف)۔ واجب الادا مالیاتی رقم کا 5% • فوری ادائیگی کے چارجز قیمت خرید کا ایک حصہ ہونگے۔
PL65076	5. چیک واپسی کے چارجز	فی چیک 600 روپے
PL65071	6. مشارکہ یونٹ کی تاخیر سے ادائیگی کے کرانے پر چارجز	مشارکہ یونٹس کی خریداری کے عوض تاخیر سے ادائیگی پر اضافی کرایہ، اوور ڈیو مدت کیلئے لاگو شرح کرایہ کے مطابق ہوگا

PL Categories	E. الفلاح مشارکہ ہومز	
	7. کرائے کی تاخیر سے ادائیگی پر Charity	اور ڈیو مدت کے کرائے کی رقم کا 24 فیصد سالانہ
	8. ہوم مشارکہ سہولت کی مکان کی تعمیر کے بغیر ایڈجسٹمنٹ پر پینلٹی جب یہ سہولت پلاٹ کی خریداری اور اس پر تعمیر کے لئے حاصل کی گئی	پلاٹ خریدنے کی سہولت کی رقم کا 5%
PKR17319	9. اگر کسٹمر کی جانب سے سہولت کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو مندرجہ ذیل تازہ رپورٹس (اگر درکار ہوں) کسٹمر کے خرچ پر حاصل کی جائیں گی: ویلیو ایشن رپورٹ آمدنی کے تخمینہ کی رپورٹ	اصل کے مطابق
	10. آمدنی تخمینہ چارجز (اگر درکار ہوں)	اصل کے مطابق
	11. ٹائٹل دستاویزات کے تصدیقی چارجز	اصل
	12. پراپرٹی تکافل/انشورنس چارجز۔ لائف انشورنس	اصل
	13. فنانس انہانسمنٹ پروسیسنگ چارجز	7500 روپے
	14. مشارکہ دستاویزات (لیگل)	اصل
	15. گرین فنانس قبل از وقت سیٹلمنٹ چارجز	5% اگر ادائیگی کے پانچ سالوں میں ادا کر دیا گیا ہو اور 3% بعد میں، فیسیلیٹی کی میچوریٹی تک
	F اسلامی برآمدی ری فنانس	
	1- IERS درخواست کی ہینڈلنگ	750 روپے فی کیس
	2- برآمدی کارکردگی کی تصدیق	1,200 روپے فی EE/EF اسٹیٹمنٹ

G) کارپوریٹ فنانسنگ پارٹی/ قرض دار			
1) کارپوریٹ فنانسنگ پارٹی/ قرض دار (کریڈٹ لائن پروپوزل)	کریڈٹ لائن پروپوزل کی پروسیسنگ اور اسٹرکچرنگ فیس تا سہولت:	تجدید (روپے میں)	نیا/ اضافے کے ساتھ تجدید/ OTT (روپے میں)
	50 ملین روپے	5,000	10,000
	100 ملین روپے	10,000	20,000
	200 ملین روپے	20,000	40,000
	300 ملین روپے	30,000	60,000
	500 ملین روپے	50,000	100,000
	1 بلین روپے	100,000	200,000
	3 بلین روپے	300,000	600,000
	5 بلین روپے	500,000	1,000,000
	10 بلین روپے	1,000,000	2,000,000
10 بلین سے زائد یا شریعہ بورڈ کے مشورے کے مطابق			
AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مزاحمہ/ مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔ *طویل المدت سہولت کی تجدید پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ **2. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی رعایت یا استثنیٰ کی منظوری GH-IBG کی جانب سے یا بینک کے مجاز افراد کی جانب سے دی جاسکتی ہے۔			
H) SME اور کمرشل فنانسنگ پارٹی/ قرض دار			
کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے نئے بینک کسٹمرز، کیس کی منظوری سے مشروط: پروسیسنگ اور اسٹرکچرنگ فیس برائے ایس ایم ای کمرشل کسٹمرز۔		کریڈٹ لائن پروسیسنگ چارجز	
25 ملین روپے تک		10,000/- روپے	
100 ملین روپے تک		15,000/- روپے	
200 ملین روپے تک		20,000/- روپے	
200 ملین سے زائد		25,000/- روپے	

PL Categories	SME (H) اور کمرشل فنانسنگ پارٹی/ قرض دار	
	کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے کریڈٹ کی سہولت کی تجدید / اضافہ . پروسیسنگ اور مشورہ فیس برائے ایس ایم ای کمرشل کسٹمرز۔ 25 ملین روپے تک -/5,000 روپے 100 ملین روپے تک -/10,000 روپے 200 ملین روپے تک -/15,000 روپے 200 ملین سے زائد -/20,000 روپے یا AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مراجہ / مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔ *طویل المدت سہولت کی تجدید پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ **2/EO/OTT/ عبوری اضافہ ، پریوڈک ریویوز ، کیش بیک سہولیات پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے ، علاوہ ٹریڈ انیشیایٹو trade initiatives کے تحت کھولی گئی LCs اور سیونگز اکاؤنٹس/ TDR کے تحت سیکیورڈ LGs۔ *** 3. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی رعایت یا استثنیٰ کی منظوری بینک پالیسی کے تحت دی جا سکتی ہے۔ مزید eCLP گروپ، تمام گروپ/سسٹر کنسرنز کو ایک ادارہ ہی تصور کیا جائے گا اور CLP پروسیسنگ چارجز گروپ سے وصول کئے جائیں گے تاکہ افرادی طور پر۔	
	تمام قسم کی کریڈٹ سہولیات بشمول فنڈز / نان۔ فنڈز اور پروگرام کے تحت مستعار دی گئی پروڈکٹس پر کمرشل / ایس ایم ای کسٹمرز کیلئے چیریٹی کی لاگو شرح 16 فیصد سالانہ ہوگی۔ چیریٹی گروپ ہیڈ . اسلامک بینکنگ گروپ کی صوابدید پر ختم / نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔	کرائے کی تاخیری ادائیگی پر چیریٹی
	(I) الفلاح اسلامک کاروبار فنانس	
	کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے نئے بینک کسٹمرز، کیس کی منظوری سے مشروط: پروسیسنگ اور اسٹریکچرنگ فیس برائے ایس ایم ای کسٹمرز۔ 30 ملین روپے تک 10,000 روپے کریڈٹ لائن پروپوزل پروسیسنگ چارجز برائے کریڈٹ کی سہولت کی تجدید / اضافہ . پروسیسنگ اور مشورہ فیس، مختصر المدت تجدید کی صورت میں جو کہ مختصر المدت سہولت پر لاگو ہوگی۔ برائے ایس ایم ای کسٹمرز۔ 30 ملین روپے تک 5,000 روپے یا شریعہ بورڈ کے مشورے کے مطابق	پروسیسنگ فیس (فنانسنگ ایپلیکیشن فارم کے ساتھ پیشگی قابل ادا)
	AAOIFI اسٹینڈرڈ کی تکمیل کیلئے یہ چارجز صرف مراجہ / مساومہ سہولت حاصل کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوں گے۔	

PL Categories	J) الفلاح اسلامک ملکیت فنانس	
	1. پروسیسنگ فیس	کم از کم 10,000 روپے یا فنانس کی گنی رقم کا 0.1 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔
	2. قبل از وقت سیٹلمنٹ چارجز	a. ڈسبرسمنٹ کے پہلے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 5 فیصد b. ڈسبرسمنٹ کے دوسرے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 4 فیصد c. ڈسبرسمنٹ کے تیسرے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 3 فیصد d. ڈسبرسمنٹ کے چوتھے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 2 فیصد e. ڈسبرسمنٹ کے پانچویں سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 1 فیصد
	3. ذاتی ذرائع کے ذریعے مکمل اور حتمی ادائیگی یا بی ٹی ایف پلاٹ پر تعمیر سے قبل	پرنسپل واجب الادا رقم کے 12% کے اضافی یونٹ کی قیمت
	K) الفلاح اسلامک فلیٹ فنانس	
	1. پروسیسنگ فیس	25 ملین روپے تک 10,000 روپے 100 ملین روپے تک 15,000 روپے 200 ملین روپے تک 20,000 روپے 200 ملین روپے سے زائد 25,000 روپے
	2. قبل از وقت سیٹلمنٹ چارجز	a. ڈسبرسمنٹ کے پہلے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 5 فیصد b. ڈسبرسمنٹ کے دوسرے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 4 فیصد c. ڈسبرسمنٹ کے تیسرے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 3 فیصد d. ڈسبرسمنٹ کے چوتھے سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 2 فیصد e. ڈسبرسمنٹ کے پانچویں سال میں منسوخی۔ مشارکہ میں بینک کے واجب الادا شیئر کا 1 فیصد

نوٹ:

- یہ ہمارے اسٹیٹڈرٹڈ چارجز ہیں اور کسی رعایت یا استثنیٰ کی منظوری GH-IBG کی جانب سے یا بینک کے ہیڈ آفس کی صوابدید پر دی جاسکتی ہے۔ مزید CLP e گروپ، تمام گروپ / سسٹر کنسرنز کو ایک ادارہ ہی تصور کیا جائے گا اور CLP پروسیسنگ چارجز گروپ سے وصول کئے جائیں گے تاکہ افرادی طور پر۔
- ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر حکومتی چارجز، جہاں لاگو ہیں، مذکورہ بالا چارجز کے علاوہ ہیں۔
- بینک کسٹمر سے معاہدے کے مطابق مذکورہ بالا چارجز کے اطلاق اور رعایت کی تشریح کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- بینک ایسے اکاؤنٹس پر چارج وصول کرنے کا حق رکھتا ہے جن پر غیر معمولی کام کرنا ہو۔
- اس شیڈول آف بینک چارجز کی رو سے سہ ماہی سے مراد تین کلینڈر مہینے ہیں۔
- ان چارجز میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل نہیں ہے (تا آنکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس ضمن میں دیگر ہدایات جاری کرے)

PL Categories	A ری میٹننسز (LCY)	
	(a) بینکرز چیک کے چارجز	
PL52101	300 روپے۔ نوٹ: ترجیحی بینکنگ کسٹمرز، الفلاح اسلامک بزنس وے اور الفلاح اسلامک بزنس وے کے رول آکاؤنٹ ہولڈرز اس چارج سے مستثنی ہیں۔ روایتی کسٹمرز کو ان کے SoBC کے مطابق چارج کیا جائے گا۔	(1) بینکرز چیکس
PL52101	نوٹ: تعلیمی اداروں / HEC / بورڈ کو فیس / واجبات کی ادائیگی کیلئے بینکرز چیک نوٹ: فیس / واجبات کا 25 روپے یا 0.50 فیصد فی انسٹرومنٹ، جو بھی کم ہو	
PL55582	100,000 تک . 720 روپے (فلیٹ) 100,000 سے زائد. 1200 روپے (فلیٹ) نان آکاؤنٹ ہولڈرز بینکرز چیکس 500,000 روپے تک روزانہ کی بنیاد پر بنائے جا سکتے ہیں	(2) بینکرز چیکس (برائے نان آکاؤنٹ ہولڈرز)
PL52002	400 روپے (فلیٹ)	(3) بینکرز چیک DD/PO کی تنسیخ
PL52103	400 روپے (فلیٹ)	(4) بینکرز چیک DD/PO کی اسٹاپ پیمنٹ
PL52101	300 روپے (فلیٹ)	(5) بینکرز چیک ڈوپلیکیٹ DD/PO کا اجراء
	(b) کان ڈپازٹ ریسپٹ کے چارجز	
	مفت مفت مفت مفت	(1) CDR کا اجراء (2) CDR کی منسوخی (3) CDR کی اسٹاپ پیمنٹ (4) ڈوپلیکیٹ CDR کا اجراء
PL52101	500 روپے فی ٹرانزیکشن	(c) SBP/NBP چیکس کا اجراء (SBP/NBP کی اجازت سے مشروط)
Customer A/C	9:00 صبح تا 1:30 سہ پہر 220 روپے فی ٹرانزیکشن 1:30 سہ پہر تا 3:00 سہ پہر 330 روپے فی ٹرانزیکشن 3:00 صبح تا 4:00 شام 550 روپے فی ٹرانزیکشن (ٹریڈری کی جانب سے منظوری سے مشروط)	(d) RTGS چارج، پیر تا جمعہ MT 103 پیر تا جمعہ (1 ملین روپے اور زائد)
	9:00 صبح تا 4:00 شام 50 روپے فی ٹرانزیکشن (ٹریڈری کی جانب سے منظوری سے مشروط)	MT 102 پیر تا جمعہ (100,000 روپے اور زائد)
	B چیکس کی کلیکشن	
	کسٹمر سے انتظام کے مطابق اور منظور کنندہ اتھارٹی کی منظوری کے مطابق	(1) ڈیویڈنڈ ورنٹس وغیرہ (جہاں کمپنیاں شریعہ کے تقاضوں پر پوری اترتی ہیں)
PL55583	300 روپے فی چیک	(2) انٹر سٹی کلنیرنگ چارجز
	C ری میٹننسز (FCY)	
PL52107 (For Swift PL55510)	1,000 امریکی ڈالر تک کی ادائیگی کیلئے 18 امریکی ڈالر یکساں ریٹ. 1,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی ادائیگی پر 0.25% بمع کم از کم چارجز 18 امریکی ڈالر اور زیادہ سے زیادہ چارجز 75 امریکی ڈالر سونفٹ چارجز 5 امریکی ڈالر یا پاکستانی روپے کے مساوی اضافی ہوں گے۔	(1.a) ڈیپٹ آف آکاؤنٹ سے آؤٹ ورڈ ٹی ٹی / سونفٹ
PL52107 (For Swift PL55510)	فارن کرنسی آکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی گئی رقم پر 0.5% قابل اطلاق ہیں، اگر ریٹ کی جانے والی تقریقی رقم 15 دنوں تک بینک میں برقرار نہ رکھی گئی۔	آؤٹ ورڈ ری میٹنس کی ادائیگی پر کیش ہیڈ لنک چارجز
PL52107 (For Swift PL55510)	درج ذیل اضافی چارجز صرف 'USD' آؤٹ ورڈ ری میٹنسز پر بمع چارج کوڈ 'OUR' پر ادائیگی کے لیے قابل اطلاق ہونگے۔ جو سروس چارجز کی رقم کے لحاظ سے اضافی ہونگے۔ Tier1 (\$0-\$5,000) کیلئے 30 امریکی ڈالر یکساں ریٹ Tier2 (\$5,001 اور زیادہ) کیلئے 45 امریکی ڈالر یکساں ریٹ * یہ ریٹس کریسپونڈنٹ بینک اور بینک الفلاح کے درمیان معاہدے کے مطابق کرنسی آؤٹ کورنٹ کی صورتوں میں تبدیل ہوسکتے ہیں۔	(1.b) آکاؤنٹ ڈیپٹ کے ذریعے آؤٹ ورڈ ٹی ٹی / سونفٹ صرف 'OUR' کوڈ کی صورت میں
PL52107 (For Swift PL55510)	فارن کرنسی آکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی گئی رقم پر 0.5% قابل اطلاق ہیں، اگر ریٹ کی جانے والی تقریقی رقم 15 دنوں تک بینک میں برقرار نہ رکھی گئی۔	آؤٹ ورڈ ری میٹنس کی ادائیگی پر کیش ہیڈ لنک چارجز

PL Categories	C ریمیشنسز (FCY)	
PL52107 (For Swift PL55510)	ایوایس ڈالر 15 یا مساوی پاکستانی روپے بمع سونفٹ چارجز 5 یو ایس ڈالر یا مساوی	(2) اکاؤنٹ ڈیبٹ کے ذریعے غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ
	فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی گئی رقم پر 0.5% قابل اطلاق ہیں، اگر ریمٹ کی جانے والی تفریقی رقم 15 دنوں تک بینک میں برقرار نہ رکھی گئی۔	آؤٹ ورڈ ریمیشنس کی ادائیگی پر کیس بینڈ لنگ چارجز
PL52103 (For Swift PL55510)	12 ڈالرز یا روپے میں مساوی رقم بشمول اصل سونفٹ چارجز۔	(3) ڈوپلیکیٹ FDD کا اجراء
PL52102 (For Swift PL55510)	7 ڈالرز یا روپے میں مساوی رقم بشمول اصل سونفٹ چارجز۔ اصل فارن بینک چارجز بھی لاگو ہو سکتے ہیں	(4) FDD/FTT/FMT کی منسوخی
PL52002 (For Swift PL55510)	7 ڈالرز یا روپے میں مساوی رقم بشمول اصل سونفٹ چارجز۔ اصل فارن بینک چارجز بھی لاگو ہو سکتے ہیں	(5) FDD کی اسٹاپ پیمنٹ
PL52110	Nil 6 ڈالرز یا روپے میں مساوی رقم	(6) ان ورڈ ریمیشنس: اگر پروسیڈز ہمارے پاس موجود اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتے ہیں اگر پروسیڈز مذکورہ بالا کے علاوہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتے ہیں
PL52110	کم از کم 4 ڈالر۔ زیادہ سے زیادہ 7 ڈالر بشمول اصل سونفٹ چارجز جو کہ جمع کنندہ بینک وصول کرے گا اور محاصل سے منہا کیا جائے گا	(7) بیرون ملک یا مقامی بینکوں کی برانچوں سے موصولہ رقم جہاں ادائیگی کا مطالبہ فارن کرنسی میں ہو
PL52110	کچھ نہیں۔ آمدنی ہمارے پاس موجود اکاؤنٹ میں جمع ہونے کی صورت میں	(8) ہوم ریمیشنس
Money Order PL 52110/ Telegram PL55589	50 روپے اور مٹی آرڈر / ٹیلی گرام / کورنیر چارجز وغیرہ	(9) دیگر
D فارن کلیکشن		
PL 65052	USD 20 فی انسٹرومنٹ بشمول اصل پوسٹیج / کورنیر چارجز	(1) کلیکشن میں بھیجے گئے فارن کرنسی چیکس/ ڈرافٹس/TCs
PL55579	پہلے سال 100 ڈالر، ہر تجدید پر 75 ڈالر اور قابل اطلاق ریمیشنس چارجز	(2) اسٹوڈنٹس کیس کی رجسٹریشن
E فارن ایکسچینج پرمٹس		
PL55578	1200 روپے فی ٹرانزیکشن	(1) فیملی میٹیننس
PL55579	1200 روپے فی ٹرانزیکشن	(2) بیرون ملک تعلیم
PL55579	1700 روپے فی ٹرانزیکشن	(3) کیپیٹل ٹرانسفر، ڈیویڈنڈ، فریٹ کیلئے SBP کی منظوری
PL55579	1700 روپے فی ٹرانزیکشن	(4) SBP سے دیگر منظوریاں
F دیگر چارجز		
	نہیں	(1) فارن کرنسی (کیس کے حوالے سے خدمات) زیر نگرانی (SBP) FE-25
PL55507	150 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو	(2) خط و کتابت کے چارجز

PL Categories	G سیف ڈپازٹ لاکرز	
PL55512	پیشگی یا مدت کے آغاز پر ایک سال کیلئے وصول کی جائے گی کرایہ 4,000 روپے سالانہ کرایہ 5,000 روپے سالانہ کرایہ 7,000 روپے سالانہ	(1) سیف ڈپازٹ لاکر کی فیس چھوٹا درمیانہ بڑا
	نوٹ: • 2 ملین روپے یا مساوی FCY ڈپازٹس کا ماہانہ اوسط بیلنس اپنے کرنٹ /سیونگ/ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹس میں برقرار رکھنے والے ڈپازٹر کو بلا معاوضہ چھوٹا/درمیانہ لاکر ایک سال کے لئے فراہم کیا جائے گا۔ • اگر لاکر لیزر کی مدت کے چھ ماہ کے اندر سرینٹر کر دیا جاتا ہے، تو برانچ مینیجر کیس ٹو کیس بنیاد پر پیشگی موصولہ 50 فیصد تک کرایہ واپس کر سکتا ہے۔	
PKR 15924	لاکر کے سائز کے مطابق، ایک سال کے لاکر کرانے کے مساوی	(2) ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا کی ڈپازٹ (پیشگی، تنسیخ پر واپس کیا جائے گا)
PL55585	لاکر توڑنے کے اصل چارجز 1200 روپے فی لاکر (تمام لاکر سائز کیلئے)	(3) لاکر توڑنے کے چارجز
PL55512	اسٹاف کو کی چارجز کے بغیر ایک لاکر حاصل کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ لاکر کا کرایہ مجوزہ ریٹ کا نصف ہوگا۔	(4) بینک الفلاح اور بینک الفلاح اسلامک بینکنگ کے اسٹاف کیلئے لاکر کی سہولت
	H ڈیپٹ کارڈ	
	(1) کلاسک اینڈ گولڈ ڈیپٹ کارڈ	
PL55611 PL55611	1,100 روپے سالانہ فی کلاسک ویزا ڈیپٹ کارڈ 1,400 روپے سالانہ فی گولڈ ویزا ڈیپٹ کارڈ 750 روپے سالانہ فی اسلامک ہیرے پائک کلاسک ڈیپٹ کارڈ	a. ڈیپٹ کارڈ اجراء کے چارجز / سالانہ چارجز
PL55526	600 روپے	b. ڈیپٹ کارڈ کی تبدیلی کے چارجز
PL55611	550 روپے	c. گم یا ناقص ہو جانے کی صورت میں ڈیپٹ کارڈ
	100 روپے	d. ورچوئل کارڈ کے اجراء کی فیس
	نہیں	e. ای اسٹیٹمنٹ
	2. سگنچر ڈیپٹ کارڈ	
	NIL 18.75 روپے فی ٹرانزیکشن 300 روپے یا نکالے گئے کیش 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو NIL 300 روپے یا نکالے گئے کیش 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو	(i) کیش نکالنا (a) بینک الفلاح اے ٹی ایم سے (b) 1 لنک ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (c) ویزا ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (d) بینک الفلاح POS مشین سے (e) نان بینک الفلاح POS مشین سے
	NIL 2.5 روپے فی انکوائری 25 روپے فی انکوائری	(ii) بیلنس کی معلومات (a) بینک الفلاح اے ٹی ایم سے (b) 1 لنک ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (c) ویزا ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے

2. سگنیچر ڈیبٹ کارڈ		
iii) تھرڈ پارٹی ٹرانسفر فیس		
50 روپے فی ٹرانزیکشن 50 روپے فی ٹرانزیکشن	50 روپے فی ٹرانزیکشن 50 روپے فی ٹرانزیکشن	(a) انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر (b) انٹر برانچ فنڈ ٹرانسفر (iv) پرائیویٹ پاس فیس (a) سالانہ فیس (b) انٹر پورٹ لاؤنج وزٹ فیس (v) سالانہ / اجراء فیس (vi) واؤچر کے دوبارہ حصول کی فیس (vii) قانونی چارہ جوئی کے چارجز (viii) سپلیمنٹری کارڈ سالانہ فیس (ix) سی آئی بی لاؤنج (x) غیر ملکی مرچنٹس کی جانب سے کی گئی فارن کرنسی ٹرانزیکشنز
I کیش منیجمنٹ ٹرانزیکشن		
کیش منیجمنٹ ٹرانزیکشن. بینکنگ کلیکشن / ڈسبر سمنٹ / الیکٹرونک بینکنگ		
ٹرانزیکشن بینکنگ پروڈکٹس کے لئے تمام چارجز کلیکشن / ادائیگی / الیکٹرونک بینکنگ کا فیصلہ کیش کے مطابق کسٹمر اور بینک کی باہمی رضا مندی سے کیا جائے گا۔		
J اے ٹی ایم		
PKR14431 PL55528 PL55528	نہیں 18.75 روپے فی ٹرانزیکشن 15 روپے فی ٹرانزیکشن نہیں 300 روپے یا انکالے گئے کیش کا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔ 100 روپے موجودہ مارکیٹ ریٹ کے 5 فیصد تک یا SBP کی ہدایات کے مطابق تیسری کرنسی ٹرانزیکشن پہلے امریکی ڈالر میں موجود ریٹ کے مطابق تبدیل کی جائے گی، جو ویزا کارڈ کے تحت ترتیب میں بتائے گئے۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ڈیبٹ ویزا کارڈ قوانین کے تحت وصول کی جائیگی۔ اصل	کیش نکلوانا (1) بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے (2) ون لنک ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (3) ویزا ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (4) بینک الفلاح کی POS مشین سے (5) دیگر بینک کی POS مشین سے (6) ورچوئل کارڈ کے اجراء کی فیس (7) فارن کرنسی (8) ٹالٹی کے چارجز
K بیلنس کی معلومات		
PKR14431	نہیں 2.5 روپے 25 روپے فی انکوائری	(1) بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے (2) ون لنک ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے (3) ویزا ممبر بینک کے اے ٹی ایم سے
L یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی		
25 روپے فی بل (بذریعہ ATM) 30 روپے فی بل (5000 روپے سے کم بذریعہ کال) 30 روپے فی بل (5000 روپے سے زائد بذریعہ کال)		

PL Categories	M بیلنس کی تصدیق	
PL55573	300 روپے فلیٹ	(1) کسٹمرز کیلئے بیلنس کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ
PL55573	500 روپے (فلیٹ)	(2) آڈیٹر کو بیلنس کنفرمیشن
	N اسٹیٹمنٹس/مشورے	
PL55532	35 روپے فی اسٹیٹمنٹ (بشمول FED)	(1) ریکونسٹ پر اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ (بشمول نقل)
	35 روپے فی اسٹیٹمنٹ	(2) بند اکاؤنٹس کیلئے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ
PL55575	50 روپے فی کاپی	(3) ڈپلیکیٹ ایڈوانس چارجز
	O چیک بک	
PL52003	25 چیکوں پر مشتمل پہلی چیک بک تمام IBG اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے فری ہوگی	(1) گم شدہ چیک بک کی جگہ نئی چیک بک کا اجراء
PL52002	بعد ازاں بحساب 15 روپے فی چیک یا فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مساوی رقم	(2) چیکوں کی اسٹاپ پیمینٹ
PL52002	نوٹ: ترجیحی بینکنگ کسٹمرز، الفلاح اسلامک بزنس وے اور الفلاح اسلامک بزنس وے پر رول اکاؤنٹ ہولڈرز اس چارج سے مستثنیٰ ہیں۔	
PL52002	450 روپے فی چیک، زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے فی درخواست یا فارن کرنسی میں مساوی رقم (اگر تمام چیک ایک ہی چیک بک سے ہیں)۔	
PL52002	1,250 روپے یا 15 ڈالر یا مساوی برائے فارن کرنسی اکاؤنٹ	(3) گمشدہ چیک بک کی اسٹاپ پیمینٹ
PL52002	100 روپے فی چیک، زیادہ سے زیادہ 500 روپے فی درخواست یا فارن کرنسی میں مساوی رقم (اگر تمام چیک ایک ہی چیک بک سے ہیں)۔	(4) اسٹاپ پیمینٹ چیک کی ریلیز
	P کلینرنگ	
PL55583	700 روپے فی چیک	(1) غیر ادا شدہ چیک کی واپسی
	نہیں	(i) ان ورڈ کلینرنگ کی واپسی (انٹر سٹی کلینرنگ پر بھی لاگو ہے)
	450 روپے فی چیک	(ii) آؤٹ ورڈ کلینرنگ (علاوہ OBC)
	12 امریکی ڈالر فی انسٹرومنٹ+اصل ڈاک چارجز	(iii) کیش چیک کی واپسی
	500 روپے یا مساوی امریکی ڈالر فی انسٹرومنٹ+اصل ڈاک چارجز	(iv) ان ورڈ FCY کلینرنگ کی واپسی
		(v) آؤٹ ورڈ FCY کلینرنگ کی واپسی
PL55583	550 روپے فی انسٹرومنٹ	(2) اسی دن کلینرنگ کے چارجز (بشمول ریٹرن چیک)
PL55583	300 روپے فی چیک ریٹرن (ڈاک/کورنیر چارجز لاگو نہیں ہیں)	(3) OBC ریٹرن چارجز
PL55583	500 روپے فی چیک	(4) غیر ادا شدہ ان ورڈ بل آف کلیکشن کی واپسی
	10,000 ڈالر سے کم بل پر 600 روپے فلیٹ	(5) کلین (بشمول چیکس)/مقامی بل فار کلیکشن (OBC)
	10,000 ڈالر سے زیادہ بل پر 1000 روپے فلیٹ	(6) غیر ادا شدہ آئیٹمز
	ان ورڈ: 15 ڈالر فی انسٹرومنٹ بشمول اصل ڈاک/کورنیر چارجز اور 12 ڈالر فی انسٹرومنٹ بشمول اصل ڈاک/کورنیر چارجز	
	خط و کتابت کے اصل چارجز اسکے علاوہ ہوں گے اگر لاگو ہیں	
PL52112	اصل (اگر لاگو ہیں تو وصول کئے جانیں گے)	(7) خط و کتابت کے چارجز
	35 ڈالر فی انسٹرومنٹ بمع اصل ڈاک/کورنیر چارجز	(8) NIFT سے آؤٹ ورڈ ڈالر کلینرنگ

PL Categories	Q متفرق چارجز	
PL55570 PL55571 PL55569 PL55569 PL55576/ PL55577 PL55584	150 روپے فی سرٹیفکیٹ	1 اسٹیٹمنٹ /سرٹیفکیٹ/ڈاکومنٹس کا اجراء دوبارہ حصول وغیرہ
	مفت	(a) اکاؤنٹ میٹیننس سرٹیفکیٹ
	300 روپے فی سرٹیفکیٹ	(b) دوسرے مالیاتی سال کے دوران پرافٹ اور ٹیکس کی کٹوتی کا سرٹیفکیٹ
	250 روپے فی سرٹیفکیٹ	(c) FCY انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ کا معاملہ
		(d) دیگر سرٹیفکیٹس کا اجراء
	500 روپے فی ڈاکومنٹ	(e) ڈاکومنٹس کے دوبارہ حصول کی فیس (ریکارڈ کی دستیابی سے مشروط)
	1000 روپے فی ڈاکومنٹ	2 سال تک
	اصل اور 100 روپے (فلٹ)	2 سال سے زیادہ
	مفت	(f) اسٹامپ پیپر کا انتظام
		(g) کیش نکالنے پر روکا گیا ٹیکس سرٹیفکیٹ
	2 دیگر چارجز	
Auto	نہیں	(a) اکاؤنٹ اوپننگ چارجز
Auto	NIL	(b) اکاؤنٹ کلوزنگ (ریگولر سیونگز اکاؤنٹ یعنی فلاح کلاسک سیونگز اکاؤنٹ BBA اکاؤنٹ، پینشنر اکاؤنٹ اور آسان اکاؤنٹ)
Auto	اکاؤنٹ کیلئے 200 روپے	(c) اکاؤنٹ بند کرنا
Auto	3 یو ایس ڈالر یا مساوی FCY اکاؤنٹ کے لئے	(d) اکاؤنٹ کلوزنگ FCY اکاؤنٹس
Auto	زیادہ سے زیادہ 100 روپے (تاہم ** کے ساتھ مندرجہ کے اکاؤنٹ اوپننگ ابتدائی ڈپازٹ کی حد/رقم کی کوئی شرط نہیں)	(e) فلاح کلاسک سیونگ اکاؤنٹ (ریگولر سیونگ اکاؤنٹ) کے لئے ذیل کیٹیگریز کے لئے اکاؤنٹ اوپننگ کے لئے بیلنس
Auto	نہیں	(f) فلاح کلاسک سیونگ اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کے لئے کم از کم بیلنس کی ضرورت
Auto	منظور شدہ پروڈکٹ گائیڈ لائن کے مطابق	(g) دیگر ڈپازٹ اکاؤنٹس کے لئے کم از کم بیلنس کی ضرورت
Auto	نہیں	(h) ڈورمنٹ اکاؤنٹ کی ری ایکٹیویشن
Auto	روپیہ اکاؤنٹ کیلئے 200 روپے	(i) مستقل ہدایات
Auto	فنڈز کی کمی کی وجہ سے مستقل ہدایات پر عملدرآمد میں ناکامی پر 500 روپے	

PL Categories	Q متفرق چارجز	
PL55550	شہر کے اندر بلا معاوضہ انٹر سٹی 275 روپے، ہر مرتبہ رقم نکالنے اور جمع کروانے پر، چارجز ڈپازٹ کی صورت میں ڈپازٹ سے کاؤنٹر اور رقم نکالنے کی صورت میں بینیفٹری سے موقع پر ہی وصول کئے جائیں گے	(j1) سروس برانچ پر آن لائن کیش ٹرانزیکشن چارجز
PL55550	شہر کے اندر بلا معاوضہ انٹر سٹی 200 روپے، ہر مرتبہ رقم نکالنے اور جمع کروانے پر، جو کہ فنڈ ٹرانسفر کی صورت میں ارسال کنندہ سے وصول کئے جائیں گے۔ مذکورہ بالا چارجز مندرجہ ذیل پر بلا معاوضہ ہوں گے: 1. الفلاح اسلامک بزنس وے 2. الفلاح اسلامک بزنس وے پی رول 3. ترجیحی بینکنگ کسٹمرز 4. ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز جن کا گذشتہ ماہ اوسط ماہانہ بیلنس 100,000 روپے یا زیادہ ہو 5. فنانسنگ کسٹمرز کیلئے، آن لائن ٹرانزیکشن چارجز سے متعلق کوئی رعایت/دستبرداری، متعلقہ بزنس پیڈز AM/s/ریجنل بزنس پیڈز کی جانب سے کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیس ٹو کیس بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔ 6. راول پنڈی اور اسلام آباد کو چارجز منہا کرتے وقت شہر میں ہی تصور کیا جائے گا۔	(j2) سروس برانچ پر آن لائن فنڈ ٹرانسفر ٹرانزیکشن (k) ہولڈ میل چارجز (l) eCIB رپورٹ (m) حقیقی اخراجات (شیڈول آف بینک چارجز میں کور نہیں ہیں) (n) 1 سال سے زائد مدت کیلئے پروسپیڈز ریٹیلانزیشن سرٹیفیکیٹ (PRC) کا اجراء
PL55590 PL55562	1000 روپے فلیٹ 120 روپے فی رپورٹ (نئی سہولت کی پروسیسنگ کے وقت، تجدید کے وقت، یا کسٹمر کی حد میں اضافے کے وقت یا EOL اور OTT کے ذریعے یا فنانسنگ کی ری اسٹرکچرنگ/ری شیڈولنگ کے وقت وصول کئے جائیں) اصل 200 روپے	
Relevant Expense Code	R بیسک بینکنگ اکاؤنٹ	
PL52005	فری 50 روپے فی وصولی	(a) کیش کی وصولی چیک کے ذریعے ماہانہ دو وصولیاں چیک کے ذریعے ماہانہ دو سے زائد وصولیاں

** مندرجہ ذیل کیٹگریز سروس چارجز کی لیویز سے مستثنیٰ ہیں بشمول چیک بک کا اجرا، بینکرز چیک (ایک یا زیادہ کا اجرا، منسوخی اور ڈپلیکیٹ بنانا) اور اکاؤنٹ کلوزنگ چارجز: طلبہ، اسٹاف، مستحقین زکوٰۃ، حکومتی/ نیم حکومتی اداروں کے ملازمین سیلری اور پینشن کے حصول کیلئے۔

** پی ایل ایس اکاؤنٹس کی مندرجہ ذیل کیٹگریز اکاؤنٹ کلوزنگ چارجز کی لیوی سے مستثنیٰ ہیں:

بینک الفلاح کے مرچنٹ اکاؤنٹس بزنس حاصل کرتے ہیں۔

حکومتی، نیم حکومتی اداروں کے مرحوم ملازمین کی بیوائیں/ بچے جو فیملی پینشن/ بینوویلنٹ فنڈ، گرانٹ کی وصولی کے اہل ہیں۔

S الفلاح اسلامک بزنس وے

25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے کی صورت میں کسٹمر مندرجہ ذیل فیس اسٹثنیٰ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے:

- پاکستان بھر میں فری آن لائن ٹرانزیکشنز۔ لا محدود (ڈپازٹ اور وڈراول)
- فری چیک بکس۔ لا محدود
- بینکرز چیکس کا بلا معاوضہ اجرا
- *ڈپلیکیٹ بینکرز چیکس کا بلا معاوضہ اجرا
- فری اے ٹی ایم/ڈیبٹ کارڈ/ کوئی سالانہ فیس نہیں (کسٹمر کو ڈیبٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ پالیسی کے تحت جاری کیا جائے گا۔ صرف کلاسک اور گولڈ)
- *فری پی آرڈر/ڈیمانڈ ڈرافٹس کینسلیشن۔ لا محدود
- فری ایس ایم ایس الرٹس
- فری اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس
- پاکستان میں کسی بھی بینک کے اے ٹی ایم سے کیش کی وصولی بلا معاوضہ (صرف پی رول اکاؤنٹس کیلئے 1 لنک اور M-Net چارجز سے استثنیٰ)

نوٹ: مطلوبہ ماہانہ بیلنس برقرار نہ رکھنے کی صورت میں کسٹمر کی بلا معاوضہ سروسز* کو مروجہ شیڈول آف بینک چارجز کے تحت چارج کیا جائے گا۔ تاہم پی رول اسکیم کے تحت تمام اکاؤنٹس کو فیس میں استثنیٰ کیلئے کم از کم اوسط بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔

A ڈیجیٹل بینکنگ اجارہ	
(a) کار اجارہ ڈاکیومنٹیشن / پراسیسنگ چارجز	ڈاکیومنٹیشن چارجز نہیں، صرف اسٹمپ ڈیوٹی چارجز اصل پر
(b) کار اجارہ منسوخ چارجز	سہولت کی سیٹلمنٹ کے وقت واجب الادا ایسیٹ ویلیو کا 5 فیصد (سیکیوریٹی ڈپازٹ کے علاوہ)
(c) کرائے کی تاخیر سے ادائیگی پر Charity	اور ڈیو مدت کے کرائے کی رقم کا 24 فیصد سالانہ
(d) چیک ریٹرن چارجز	پر چیک ریٹرن پر 600 روپے
(e) گاڑی کے قبضے / ریکوری (ایجنٹ کے چارجز)	اصل خرچے کے مطابق اور 100,000 تک۔
(f) دوبارہ حاصل کی گئی گاڑیوں کیلئے سروے چارجز	3,000 روپے تک بمطابق یا اصل، جو بھی کم ہو
(g) دوبارہ حاصل کی گئی گاڑیوں کیلئے وینر ہاؤس چارجز	1,200 روپے ماہانہ
(h) NOC کے دوبارہ اجراء کے چارجز	1,000 روپے فی NOC
(i) گاڑی کی جانچ کے چارجز (اگر لاگو ہوں)	10,000 تک یا اصل کے مطابق، جو بھی کم ہوں
(j) ضامن کی جانچ	10,000 تک، اصل چارجز کے مطابق
B ڈیجیٹل چینلز / متبادل ڈیلیوری چینلز	
(a) برانچ بینکنگ ایس ایم ایس الٹ الرٹ فیس* (ملٹی لینگویل فیچر کے ساتھ)	79 روپے ماہانہ
(b) ایس ایم ایس پل بینکنگ سروس*	25 روپے ماہانہ
(c) انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر	100 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم 10,000 روپے سے کم یا اس کے برابر ہو۔	150 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم 10,000 روپے سے زیادہ 1,000,000 روپے سے کم یا اس کے برابر ہو۔	300 روپے فی ٹرانزیکشن
(d) بین الاقوامی حصول رسائی فیس۔ بین الاقوامی سطح پر جاری کردہ کارڈز سے BAFLATMs پر کیش نکلوانے کے لئے (بشمول FED)	
(e) اے ڈی سی سروس چارجز (موبائل بینکنگ / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل ایپ)*	399 روپے سالانہ
(f) بیکن ہاؤس اسکول فیس کی ادائیگی	449 روپے سالانہ
(g) الفلاح اے ٹی ایم جابو میٹرک تصدیق	599 روپے سالانہ
(h) POS کیش آؤٹ اور کیش بیک چارجز	25 روپے فی ٹرانزیکشن
1 - 1,000	15 روپے
1,001 - 2,500	25 روپے
2,501 - 4,000	55 روپے
4,001 - 6,000	75 روپے
6,001 - 8,000	85 روپے
8,001 - 10,000	90 روپے
10,001 - 13,000	100 روپے
13,001 - 15,000	130 روپے
15,001 - 20,000	150 روپے
(i) کیش ڈپازٹ مشین۔ چارجز بینک الفلاح اکاؤنٹس دیگر بینک اکاؤنٹس	مفت
10,000 روپے تک	100 روپے
10,001 روپے اور زائد	150 روپے
سی این آئی سی	200 روپے (کوئی چارجز نہیں، اگر رقم بھیجنے والا اکاؤنٹ کھولتا ہے)
(j) ٹیکس پیمینٹس	
0 - 100,000	10 روپے
100,001 - 1,000,000	20 روپے
1,000,000 +	50 روپے

* بینک الفلاح کے ملازمین کے لئے سروسز کا حصول مفت ہے۔

C۔ بذریعہ ایفایا یا انٹرنیٹ بینکنگ ، چیک بک / بھرت کر چیک کے لیے درخواست	چیک بک اور بینکرز چیک کے لیے ، برائے مہربانی جنرل بینکنگ سیکشن دیکھنے کیونکہ وہی چارجز لاگو ہونگے
D۔ سی این آئی سی چارجز کی ادائیگی	
0 - 1,000	39.66 روپے
1,001 - 2,500	80.17 روپے
2,501 - 4,000	119.83 روپے
4,001 - 6,000	160.34 روپے
6,001 - 8,000	200.00 روپے
8,001 - 10,000	239.66 روپے
10,001 - 13,000	280.17 روپے
13,001 - 15,000	310.34 روپے
15,001 - 20,000	379.31 روپے
20,001 - 25,000	439.66 روپے
25,001 - 30,000	500.00 روپے
30,001 - 40,000	560.34 روپے
40,001 - 50,000	620.69 روپے

E. الفا اکاؤنٹ - اسلامک	
(a) کارڈ جاری کرنے کی فیس	425 روپے تک (ای ایم وی کارڈ کا اجراء)، ہوم ریسیڈنٹس پروڈکٹ پر پہلے کارڈ کا مفت اجراء
(b) کارڈ فیس سالانہ	425 روپے
(c) کارڈ ری پلیسمنٹ فیس	375 روپے (ای ایم وی کارڈ کا اجراء)
(d) واڈچری ٹرانزیول فیس	500 روپے
(e) کیش نکالنا	کچھ بھی نہیں
(a) بینک الفلاح کی اے ٹی ایم سے	18.75 روپے فی ٹرانزیکشن۔
(b) 1-Link ممبر بینک کی اے ٹی ایم سے	225 روپے یا نکالے جانے والے کیش کی رقم کا 2.5% جو بھی زیادہ ہو۔
(c) CUP ممبر بینک کی بین الاقوامی اے ٹی ایم سے	ٹرانزیکشن کی رقم کا 2%۔
(d) CUP ممبر بینک کی بین الاقوامی POS سے۔	
(f) بیلنس انکوائری:	
(a) بینک الفلاح کی اے ٹی ایم سے	کچھ بھی نہیں
(b) 1-Link ممبر بینک کی اے ٹی ایم سے	2.5 روپے فی انکوائری
(c) CUP ممبر بینک کی بین الاقوامی اے ٹی ایم سے	100 روپے فی انکوائری
(g) بیر ون ملک ٹرانزیکشن۔	موجودہ مارکیٹ ریٹ سے 5% زیادہ یا SBP کی ہدایات کے مطابق تیسری کرنسی کی ٹرانزیکشن CUP کی ترتیب میں دینے کے ریٹ کے مطابق پہلے امریکی ڈالر میں تبدیل ہوں گی۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی چارج کی جائے گی۔
(h) ٹالٹی کے چارجز	اصل کے مطابق
(i) 1-Link ڈسپوٹ چارجز	10 روپے
(j) الفا اکاؤنٹ - اسلامک سے آئی بی ایف ٹی	75 روپے
(k) سرکاری ٹیکسوں کی آن لائن کلیکشن	* 10 روپے
F. ورجول ڈیٹ کارڈ	
(a) کارڈ کے اجراء کی فیس	200 روپے + FED سالانہ
(b) انٹرنیشنل استعمال کے چارجز	مروجہ مارکیٹ ریٹ کے 5% یا ایس بی بی کی ہدایات کے مطابق
(c) امریکی ڈالر اور روپے میں خریداری ہوگی	
(d) نوٹ: تھرڈ کرنسیز پہلے امریکی ڈالر میں تبدیل ہوں گی جیسا کہ کارڈ اسکیمز میں بیان کیا گیا ہے۔	
G. بک می ٹکنگ فیسلیٹیشن چارجز (بذریعہ ایپ، آئی بی اور سی ڈی ایمز)	ٹکنٹ کی رقم کا 5%
H. ڈیجیٹل چیکس	
(a) چیک کا اجراء	5 روپے
(b) ادائیگی روکنے کے چارجز	450 روپے
(c) چیک کی واپسی کے چارجز	700 روپے

* لاگو ہونے والے تمام گورنمنٹ ٹیکسز سے مشروط ہے۔

الفا اکاؤنٹ - اسلامک کے تمام چارجز میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل ہے۔

ترجیحی بینکنگ خدمات

ہمارے کلانٹس کو مندرجہ ذیل فری سروسز فراہم کی جائیں گی اگر وہ اپنے کرنٹ/سیونگ/ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹس میں 1 ملین روپے یا مساوی FYC ڈپازٹ کا کم سے کم ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھیں۔

1. اسٹیٹنگ انسٹرکشن فی ویور۔
2. اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ۔
3. ہولڈ میل ارینجمنٹ۔
4. بینکرز چیک/ڈیمانڈ ڈرافٹ/PO کی تنسیخ۔
5. بیلنس کنفرمیشن سرٹیفکیٹ۔
6. چیکس کی لوکل کلیکشن (پاکستان کے اندر) بشمول انٹرسٹی اور OBC۔
7. چیک واپسی کے چارجز۔
8. ایک ہی اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنے کے لئے انٹر برانچ ٹرانسفر۔
9. پروسیڈر یا لنزیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء (PRC)
10. چیکس کا فارن کلیکشن (کسی بھی کرنسی میں)۔
11. آن لائن کیش/چیک ٹرانزیکشن۔
12. چیک بک چارجز کا اسٹٹنی۔
13. FTT/FDD چارجز کا اسٹٹنی۔
14. اسٹاپ پیمنٹ چارجز۔
15. اُسی دن کلیئرنگ چارجز کا اسٹٹنی۔
16. ای اسٹیٹمنٹ۔
17. چیک بک اجراء کے چارجز۔
18. بینکرز چیک اجرائی چارجز

نوٹ:

- تمام حکومتی محصولات بشمول ایکسائز ڈیوٹیز، ٹیکس، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کسٹمر کی ذمہ داری ہے اور یہ محصولات مذکورہ بالا چارجز کے علاوہ کسٹمر کے اکاؤنٹ سے منہا کئے جائیں گے۔
- یہ ٹیرف 6 ماہ کیلئے مؤثر ہے اور پاکستان میں ہماری تمام برانچوں پر نافذ العمل ہے۔
- بینک چارجز کا یہ شیڈول اسلامی بینکنگ کے ان کسٹمرز پر بھی لاگو ہوگا جو کنونشنل بینکنگ برانچوں سے خدمات حاصل کر رہے ہیں۔
- یہ ہمارے معیاری چارجز ہیں اور رعایت/اسٹٹنی کی منظوری IBG GH کی صوابدید پر یا پیڈ آفس کی تجویز کے مطابق دی جا سکتی ہے۔
- ایکسائز ڈیوٹیز اور دیگر حکومتی چارجز، جہاں لاگو ہوں، مذکورہ بالا چارجز کے علاوہ ہیں۔
- بینک کسٹمر کے ساتھ معاہدے کے تحت مذکورہ بالا چارجز اور کمیشن کے اطلاق کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- ایسے اکاؤنٹ جن پر غیر معمولی کام کرنا ہو، بینک علیحدہ چارج عائد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- سہ ماہی، جس کا اس شیڈول آف بینک چارجز میں ذکر ہے، سے مراد تین کیلنڈر مہینے ہیں۔
- فنانشنگ کسٹمرز کیلئے چیک بک، پی آرڈر/ڈیمانڈ ڈرافٹ/بینکر چیک کے اجرائی چارجز میں رعایت/اسٹٹنی کی منظوری متعلقہ بزنس پیڈز/ایریا منیجرز/ریجنل بزنس پیڈز کی جانب سے کاروبار کی نوعیت کے مطابق کیس ٹو کیس بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔

بینک الفلاح اسلامک پریمیر

اہلیت: اسلامک پریمیر بینکنگ کسٹمر بننے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل معیار کے مطابق کم سے کم اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا:

قسم	کم سے کم ابتدائی چارجز (سہ ماہی اوسط بیلنس)
سی اے ایس اے (کرنٹ اکاؤنٹ / سیونگز اکاؤنٹ)	3 ملین روپے
ٹی ڈی آر* (ٹرم ڈپازٹ ریسیت)	5 ملین روپے

مفت سروسز:

اسلامک پریمیر کسٹمرز اپنے ابتدائی ڈپازٹ کے مطابق فیس میں مندرجہ ذیل کمی حاصل کریں گے:

3 ملین روپے سے 5 ملین روپے تک	5 ملین روپے سے 7 ملین روپے تک	7 ملین روپے اور زائد
بینکرز چیک کا اجراء بینکرز چیک کی منسوخی سرٹیفیکٹ کا اجراء (اکاؤنٹ میٹیننس + بیلنس کی تصدیق + ڈبلیو ایچ ٹی + منافع کی ادائیگی، گنل ادائیگی، زکوٰۃ سرٹیفیکٹ، وغیرہ) اندرون شہر کلپئرنگ اندرون شہر آن لائن ٹرانزیکشن بیلنس کا تصدیقی سرٹیفیکٹ اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز چیکس کی ادائیگیاں روکنا ڈبلیو ایچ ٹی گوشوارے کے لیے درخواست اکاؤنٹ کا گوشوارہ آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفنا موبائل ایپ) ایس ایم ایس الرٹس ویزا سگنچر ڈبلیو ایچ ٹی فیس (اجراء + سالانہ + متبادل کارڈ) چیک بکس کا اجراء انٹر بینک آن لائن ٹرانزیکشنز ان روڈ ریمیننس ای۔ اسٹیلٹنسٹس انٹر بینک فٹڈ ٹرانسفر / انٹرنل فٹڈ ٹرانسفر	بینکرز چیک کا اجراء بینکرز چیک کی منسوخی سرٹیفیکٹ کا اجراء (اکاؤنٹ میٹیننس + بیلنس کی تصدیق + ڈبلیو ایچ ٹی + منافع کی ادائیگی، گنل ادائیگی، زکوٰۃ سرٹیفیکٹ، وغیرہ) اکاؤنٹ کا گوشوارہ چیکس کی ادائیگی روکنا چیک بکس کا اجراء اندرون شہر کلپئرنگ اندرون شہر آن لائن ٹرانزیکشنز آؤٹ ورڈ ٹیلیگرافک ٹرانسفر (ٹی ٹی) فارن کرنسی (ایف سی وائی) ڈبلیو ایچ ٹی ڈبلیو ایچ ٹی بینکرز چیک آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفنا موبائل ایپ) ڈبلیو ایچ ٹی گوشوارے کے لیے درخواستیں ایس ایم ایس الرٹس بیلنس کا تصدیقی سرٹیفیکٹ اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز ویزا سگنچر ڈبلیو ایچ ٹی فیس (اجراء + سالانہ + متبادل کارڈ) انٹر بینک آن لائن ٹرانزیکشنز چیک کی واپسی کے چارجز ای۔ اسٹیلٹنسٹس چیکس کی وصولی (ملکی کرنسی / غیر ملکی کرنسی) مقررہ ہدایات انٹر بینک فٹڈ ٹرانسفر / انٹرنل فٹڈ ٹرانسفر	بینکرز چیک کا اجراء بینکرز چیک کی منسوخی سرٹیفیکٹ کا اجراء (اکاؤنٹ میٹیننس + بیلنس کی تصدیق + ڈبلیو ایچ ٹی + منافع کی ادائیگی، گنل ادائیگی، زکوٰۃ سرٹیفیکٹ، وغیرہ) اکاؤنٹ کا گوشوارہ چیک کی ادائیگی روکنا چیک بک کا اجراء اندرون شہر کلپئرنگ اندرون شہر آن لائن ٹرانزیکشنز آن لائن بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ اور ایفنا موبائل ایپ) ایس ایم ایس الرٹس ویزا سگنچر ڈبلیو ایچ ٹی فیس (اجراء + سالانہ + متبادل کارڈ) آؤٹ ورڈ ٹیلیگرافک ٹرانسفر (ٹی ٹی) فارن کرنسی ڈبلیو ایچ ٹی ڈبلیو ایچ ٹی بینکرز چیک آسی دن کلپئرنگ واپس کیے گئے چیک / ڈرافٹ (جو دیگر بینکوں سے ڈرا کیے گئے) انٹر بینک آن لائن ٹرانزیکشنز اندرونی ترسیل زر لاکری سالانہ فیس (بڑے لاکرز)** ای۔ اسٹیلٹنسٹس چیکس کی وصولی (ملکی کرنسی / غیر ملکی کرنسی) مقررہ ہدایات انٹر بینک فٹڈ ٹرانسفر / انٹرنل فٹڈ ٹرانسفر

* کسٹمرز جو بذریعہ ٹرم ڈپازٹ ریسیت کے معیار کے تحت اہل ہیں، ان کے لیے 7 ملین روپے کی رعایت (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) لاگو ہوگی۔

** لاکر کی دستیابی پر

نوٹ: ڈپازٹرز جو 2 ملین روپے یا کرنٹ اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ میں فارن کرنسی میں مساوی رقم کا مابانہ اوسط بیلنس یا ٹرم ڈپازٹ رکھتے ہیں تو انہیں ایک سال کے لیے چھوٹے / درمیانے لاکر ز مفت فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سہولت ان کسٹمرز کو دستیاب ہوگی جو پورے سال درکار اوسط بیلنس برقرار رکھیں گے۔ یہ پالیسی، لاکر کی دستیابی پر اسلامک پریمیر کسٹمرز کے تمام تھریشلز کے لیے بھی قابل اطلاق ہے۔

کنزیومر فنانس:

اسلامک پریمیر ویزا سگنچر ڈبلیو ایچ ٹی کارڈ

- لاؤنج کی فیسیلیٹی کے ذریعے 650 سے زائد ایئر پورٹ لاؤنجز پر بلا معاوضہ رسائی دستیاب ہے۔
- اہلیت کا معیار: لاؤنج وزٹ سے قبل ہر کلپئر سال میں کم از کم 1 یو ایس ڈالر کی ایک بین الاقوامی ٹرانزیکشن۔ اگر اہلیت کا معیار پورا نہیں ہو پاتا ہے تو ہر وزٹ پر 27 یو ایس ڈالر چارج کیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا معیار پورا کرنے سے قبل ایک وزٹ بلا معاوضہ ہے۔ کارڈ ہولڈر کے ساتھ آنے والے مہمانوں سے 27 یو ایس ڈالر چارج کیے جائیں گے۔
- پرائیویریٹی پاس: (a) سالانہ فیس: 10 یو ایس ڈالر (b) ایئر پورٹ لاؤنج وزٹ فیس: 32 یو ایس ڈالر فی وزٹ
- ہر ماہ Shapes (صرف کراچی اور لاہور کے لیے) 10 تک بلا معاوضہ وزٹس۔ اس کے علاوہ 1,500 روپے فی وزٹ چارج کیا جائے گا۔

الفلاح اسلامک آئو فنانس

ریگولر پروسیسنگ فیس پر 100% رعایت
منافع کی شرح میں 0.5% کا ریٹ بریک

الفلاح اسلامک ہوم فنانس


ریگولر پروسیسنگ فیس پر 100% رعایت
منافع کی شرح میں 1% کا ریٹ بریک

ایس ایم ای

ریگولر پروسیسنگ فیس پر 50% رعایت

نوٹ :

1. یہ چارجز ششماہی بنیاد پر تبدیلی سے مشروط ہیں۔
2. اس کے علاوہ ، بینک کے تمام سروس چارجز بینک الفلاح اسلامک کے حالیہ شیڈول آف چارجز کے مطابق قابل اطلاق ہونگے۔
3. مذکورہ بالا میں مزید یہ کہ تمام حکومتی محصولات وصول کیے جائیں گے۔
4. اہلیت کا معیار ، ڈپازٹ سلیبس اور چارج میں رعایت کی فہرست پاکستانی روپے یا غیر ملکی کرنسی میں مساوی رقم میں قابل اطلاق ہیں۔
5. وہ اسلامک پریمینر کسٹمرز جو مذکورہ بالا معیار اہلیت کے مطابق سہ ماہی بیلنس برقرار نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی سہولیات میں کمی کردی جائے گی۔
6. سہولیات میں کمی کرنے پر تمام فوائد اور مراعات کو روک دیا جائے گا اور اسلامک پریمینر کارڈ (ز) کو بند کر دیا جائے گا۔
7. حالیہ طور پر ، یہ سہولت صرف محدود شہروں میں دستیاب ہوگی ۔



Bank Alfalah Limited
B. A. Building, I. I. Chundrigar Road,
Karachi, Pakistan - 74000
111 225 111
bankalfalah.com